

شرف المکان بامکین

(3476)

ذکر مبارک

معنی

تالیف منیف در حالات مشائخ السادات مکیان شریف

قائم الدین قازنگری پشاور

~~تذکرہ مبارک~~
تذکرہ 86667

”ذکرِ مبارک“ کو مجددِ مائتہِ الثالثہ عشر قیومِ العالم من اللہ الول
حضرت سید امام علی شاہ صاحب نور اللہ مرتدہ
کے نامِ نامی سے معنون کرتا ہوا بارگاہِ مجیب الدعوات میں
دست بدعا ہوں کہ وہ قبول فرما کر اس کا ثواب میرے والد
قبلہ غلام علی صاحب مرحوم کو پہنچا دے۔

مے تو انی کہ وہی اشکِ مرا حُسنِ قبول؛

تو کہ دُرِ ساختہ قطرہ بارانی را

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قائم الدین قانونگوئے پبلشر

متصل جامع مسجد گوکل پورہ امرتسر

فہرست

۵۰	پیر بوجہ جٹ رندھاوا (مورث اعلیٰ و حریم کوٹ)	۵	ارشادِ عالی
۵۲	تاریخ وفات پیر بوجہ جٹ	۶	عرضِ نامہ
۵۲	حلیہ	۷	عرضِ حال
۵۲	مزار مبارک	۷	مولف کی علمی بے بضاعتی
۵۲	سید خواجہ	۷	مکان شریف سے تعلق
۵۲	سید ابوالمعالی	۷	مکان شریف اہل دل کی نظر میں
۵۶	حضرت تید شاہ محمد دمورث ثانی مکان شریف	۱۰	دیباچہ
۵۸	اسیر شاہ ابدالی سے ملاقات	۱۲	حمد
۶۲	تاریخ و سال حضرت شاہ محمد صاحب مرحوم	۱۵	نعت
۶۳	ذکر مولوی محمد محفوظ صاحب	۱۹	مذہب صرف اسلام ہے
۶۵	ذکر خیر	۲۲	تہیہ
۶۵	حضرت تید شاہ حسین صاحب (المعروف بھور والے صاحب)	۲۶	وجہ تالیف
۷۸	کیفیت سفر حجاز	۳۸	شجرہ نسب
۸۱	اجازت نامہ	۴۱	حالات خاندان
۸۷	مناجات	۴۱	جعفر تو آب
۹۷	حالات متعلق مرزا سنگین بیگ	۴۱	حضرت ابوالمبارک بن تید فخر الدین صاحب
۹۷	حضرت حافظ محمود علیہ الرحمۃ	۴۱	سید فتح اللہ
۹۸	حالات حضرت تید حمید شاہ	۴۳	حضرت دانیال دمورث اعلیٰ مکان شریف
۱۰۰	ذکر حاجی صاحب		مختصر کیفیت سفر بدیع الدین شاہ مداراد
۱۰۵	آپ کی عبادات	۴۵	انہ کی قیام مکان شریف

۱۲۳	ذکر مبارک حصہ دوم	۱۰۶	آپ کے ملفوظات
۱۵۸ تا ۱۴۴	حالات سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ	۱۰۹	آپ کی خصوصیات
۱۵۹	منقبت	۱۱۴	حضرت بدھن شاہ صاحب کلانوری
۱۶۱	کلمات طیبات	۱۱۵	بیعت اور مکان شریف سے تعلق
۱۶۸	کرامات	۱۲۵	مرزا قادیان کے متعلق آپ کی پیشگوئی
۱۶۲	پیر روشن ضمیر	۱۲۵	بیرانڈ ساکن مولودال
۱۶۴	سادات مکان شریف کے مختصر حالات	۱۲۷	برج جیوا کا مورث
۱۶۴	قطب الاقطاب سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۹	گوبند جس ساکن جلال آباد
۱۸۷	مخدوم عالم سید صادق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۹	ٹیک چند ساکن فتح گڑھ چوڑیاں
۱۹۱	مولانا قاری کرامت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ	۱۳۳	گکھو خاں ساکن خطر اتے تحصیل اجالہ
۱۹۳ تا ۱۹۴	ایک نادر تحریر	۱۳۷	رژ چھتر سے مکان شریف
۱۹۷ تا ۲۰۱	خلفاء	۱۳۹	وصیت نامہ کی نقل
۲۰۲	شجرہ فارسی	۱۴۱	مزار مبارک سے فیض
۲۰۳ تا ۲۰۶	شجرہ پنجابی	۱۴۲	قطعہ تاریخ

محکم دیندر لاہور

ارشاد عالی

سجادہ نشین سوم مکان شریف

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ

قاضی قائم الدین صاحب کے والد ماجد قاضی غلام علی مرحوم قیوم عالم حضرت سیدنا امام علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے خاص متوسلین سے تھے۔ اسی خاص تعلق کی وجہ سے قاضی صاحب موصوف کا مدت سے خیال تھا کہ حضرات مکان شریف کے چیدہ اور کندہ حالات جو ابھی تک عوام بلکہ خواص کی نظروں سے بھی بالکل اوجھل ہیں۔ اور اکثر حالات ایسے ہیں جو اب تک کسی کتاب میں نہیں آئے۔ ان کو جمع کر کے صفحہ قرطاس پر لایا جاوے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت جانفشانی اور کوشش سے ان حالات کو جمع کیا۔ بعض اقتباسات آثار قیومیہ جو مولانا سید احمد علی صاحب مرحوم نے اعلیٰ حضرت قیوم عالم سیدنا امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں قلمبند فرمائی تھی جو ابھی تک چھپ نہیں سکی۔ اور نہ ہی دوستوں کو اس کی اہمیت کا علم ہے۔ اور بعض دیگر معتبر ذرائع سے حاصل کر کے صرف پہلا حصہ شائع کیا ہے۔ امید ہے کہ جملہ مسلمان اور خاص کر متوسلین مکان شریف اس ذکر مبارک سے برکت حاصل کریں گے۔

میر محمد منظر قیوم
سجادہ نشین مکان شریف

۱۲ (۱۰) شر
۱۲ آیات قیومیہ یا آثار قیومیہ ایک ہی کتاب ہے

عرضِ ناشر

آج سے چالیس سال پہلے ساداتِ مکانِ شریف کے حالات میں ذکرِ مبارک کے نام سے پہلی جلد طبع ہوئی اور دوسری جلد زیرِ ترتیب تھی جس میں قیومِ عالم حضرت امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تفصیل سے درج تھے ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ میں تلف ہو گئی۔

چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی صاحبِ علم اس طرف توجہ دیتا تاکہ جس کام کی ابتدا محترم منشی قائم الدین مرحوم نے کی تھی اس کی تکمیل ہوتی اور اہل سلسلہ کو خاص طور پر فائدہ پہنچتا اور عام مسلمان بھی استفادہ کرتے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ خدایِ جاننا ہے کہ اس تاخیر میں کی حکمت پوشیدہ ہے۔ فقیر قدرت اللہ جو آستانہ عالیہ مکانِ شریف کا دیرینہ خاوم ہے۔ اور زندگی کی آخری منزلوں

میں سفر کر رہا ہے کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ دوسری جلد مرتب کرنا تو کسی صاحبِ ہمت آدمی کا کام ہے۔ دیکھئے یہ سعادت کس خوش بخت کے ہاتھ آتی ہے۔ سرِ دست ذکرِ مبارک کا پہلا حصہ ہی چھپوا دیا جائے۔ کیونکہ اب یہ بھی کم یاب ہو چکا ہے۔ اور نئی نسل ان بزرگوں کے حالات سے بالکل بے خبر ہے۔ تو کلا علی اللہ یہ کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین صاحب مدظلہ العالی نے اپنی اجازت و تعاون سے سرفراز فرمایا۔

حافظ محمد اشرف مجددی سیالکوٹی نے کتابت اور چھپوائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ جزاء اللہ خیر الجزا چونکہ ذکرِ مبارک کی پہلی جلد میں قیومِ عالم حضرت امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شامل نہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ آپ کے مختصر حالات شامل کر دیئے جائیں۔ لہذا چند مستند کتب سے آپ کے کچھ حالات نقل کر دیئے ہیں۔ گو سیرت و سوانح کے قواعد کے مطابق مرتب شدہ نہیں۔ لیکن پھر بھی امید ہے کہ اہل سلسلہ اور بزرگانِ دین سے عقیدت رکھنے والے حضرات فقیر کی اس ناچیز کوشش کو پسند فرمائیں گے۔

فقیر قدرت اللہ

۱ چک نمبر ۱۱۹۔ بھولیر ضلع شیخوپورہ

عرضِ حال

مولف کی علمی بے بضاعتی | بچپن کے پانچ سال مدت تعلیم۔ ٹڈل کا نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی تلاش معاش میں نکلنا پڑا اور وظیفے ملنے پر بھی سلسلہ تعلیم بوجہ غربت جاری نہ رہ سکا۔ ”بندوبست“ کی قید و بند اور محکمہ مال کی ضرب پڑنا اور گرواوری کی مصروفیتوں نے کسی دوسری طرف نظر اٹھانے کی مہلت نہ دی۔

اب نیشن ملنے پر میں ہوں اور علم و عمل کی تہیدستی اور عمر رفتہ کا ماتم۔
مکان شریف سے تعلق | والد صاحب نے مبارک وقت میں قومِ عالم حضرت سید امام علی شاہ صاحب کی غلامی کا فخر حاصل کیا اور وہی مکان شریف سے تعلق کا باعث ہوا۔

مکان شریف اہل دل کی نظروں میں | پنجاب کی دو بہت بزرگ ہتیاں ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہیں۔ مکان شریف کو ان کی نظروں نے دیکھا۔

(۱) قبلہ سید جماعت علی شاہ صاحب لاثانی علی پوری مرحوم نے راقم سے فرمایا کہ ”مکان شریف وہ مبارک جگہ ہے جس کے نام پر لوگ وجد میں آجاتے تھے۔“ فرمایا ابتدا میں میں چورہ شریف پیدل جایا کرتا تھا ہم دو آدمی (آپ نے دوسرے ہمراہی کا نام نہیں لیا تھا لیکن وہ غالباً حضرت علامہ نبی صاحب مرحوم ساکن چک قریشیاں ہوں گے) پیدل چورہ شریف سے واپس آ رہے تھے کہ دھنتی کے علاقے میں جہاں کنوئیں نہیں۔ صبح ایک

جو سٹرپریم نے نماز پڑھی۔ ایک سفید ریش لباس میں آئے اور دریا فت
 کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم نے کہا، دریا سے راوی کے کنارے
 دریا سے راوی کا نام سن کر کہا کہ جہاں مکان شریف ہے۔ ابھی جواب
 کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ مکان شریف کے نام پر ان کو وجد آ گیا اور
 زمین پر لوٹنے لگے۔ ان کے کپڑے مٹی میں لت پت ہو گئے۔
 (۲) قبلہ حضرت میاں شیر محمد صاحب مرحوم شرقپوری سجادہ نشین صاحب
 مکان شریف نے فرمایا کہ:

” میاں صاحب مرحوم نے مکان شریف میں ایک بٹھک تیار کرانے
 کے لیے معمار روانہ فرمائے۔ اتفاقاً تعمیر میں کچھ رکاوٹ پیش آ گئی
 جس کے لیے معماروں نے حضرت کو لکھا۔ آپ نے تحریر فرمایا میں
 منتظر ہوں اور یہ سمجھو کہ تم مدینہ شریف میں بیٹھے ہو۔“

اس وجد آفریں مدینہ پنجاب (مکان شریف) کے ان بزرگوں کے حالات
 جنہوں نے رزق چھتر جیسی جگہ کو اپنے مشرف سے مشرف کر کے مکان شریف
 بنا دیا تھا، تا حال شائع نہ ہوئے تھے۔ قریباً دس سال کے پس و پیش کے بعد آخر
 قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند
 آل اطہر (کشتی نوح) کے ذریعہ شاید یہ آہن زنگ خوردہ (راقم)

۱۔ کتاب کی تالیف کے وقت مکان شریف کے سجادہ نشین حضرت
 قبیلہ سید مظہر قیوم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ”خزینہ کرم“ میں ان کا مختصر تذکرہ موجود ہے۔ اگر
 کوئی اہل قلم شاہ صاحب موصوف کے حالات زندگی ترتیب سے کریہ سعادت حاصل
 کرے تو اہل سلسلہ کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ (ناشر)
 ۲۔ مکان شریف کا پرانا نام ہے پنجاب کے صنلج گورد اسپور میں مشہور قصبہ
 ہے۔ پاکستان بننے کے وقت یہ بستی انڈیا میں آ گئی تھی۔ (ناشر)

ڈوبنے سے بچ جاوے۔

ذکر مبارک میں نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی علمی و ادبی خوبی۔ صرف حالات کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ضائع ہونے سے محفوظ رہیں۔
قارئین کرام میری کم علمی، مضامین کی بے ترتیبی اور تحریر کے نقائص پر نظر نہ کریں۔ ذکر مبارک "کو بصدق عر
گردِ مرداں گردِ گرمے کم شود بویت رسد
پڑھیں۔ اور اس کی برکات سے مستفیض اور مستفید ہو کر راقم کو دعائے خیر سے
یاد فرمادیں۔

قائم الدین قانون گو (نیشنل)
متصل جامع مسجد گوکل پورہ امرتسر
اپریل ۱۹۴۰ء

دیباچہ

از فخر مکان شریف مولانا سید محمد منظور صاحب نقشبندی مجددی

نَحْمَدُكَ يَا مَرْءَ أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا كَرِيمًا، وَجَعَلَهُ
فِي السَّمَاءِ سِتْرًا جَانِبًا مَنِيْرًا
لِلرُّوحِ خَيَالُهُ أَنْبِيْسُ الْخَلَوَاتِ | لِلْعَامِيْنَ جَمَالُهُ كَجَلِيْسِ الْجَلَوَاتِ
أَهْدَاهُ اللَّهُ مِنْ حِلَاتِ الصَّلَاةِ | أَضْعَافُ أَضْعَافِ رِمَالِ الْفَلَوَاتِ
اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کی پاکیزہ اور مطہر زندگیاں بنی نوع انسان
کے لیے مشعل ہدایت ثابت ہوئی ہیں۔ اس دنیا کا مسافر اگر زندگی کے مراحل طے
کرتا ہو انفوس قدسیہ کے مقامات عالیہ پر نظر ڈالتا جائے تو وہ یقیناً اپنے مبداء
تعمین کے مطابق سرحد مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

مگر آج مغرب کی ساحرہ نے ہمارے کانوں میں کچھ ایسا افسوں بھونک
دیا ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں نے تعیش کے جام میں انسانی چہرہ کا عکس بندر کی
شکل میں دیکھا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مسئلہ ارتقا کہتے ہی اسی کو ہیں۔

۱۔ تقسیم ہند کے بعد مکان شریف کے تمام سادات ہجرت کر کے پاکستان
آگئے تھے۔ شاہ صاحب مرحوم و مغفور ساہیوال شہر میں مقیم ہو گئے۔ ۱۳۸۱ھ میں
انتقال فرمایا اور آپ کی رہائشی کوٹھی میں ہی ایک طرف آپ کا مزار شریف ہے۔
آپ کے مختصر حالات "بام عرش" مطبوعہ تاج کینی، اکابر تحریک پاکستان اور خزینہ کرم میں چھپ چکے ہیں۔
شاہ صاحب موصوف بڑے متبحر عالم اور جامع شخصیت تھے ایسی سببیوں کے مفصل تذکرے مرتب ہونے چاہئیں تاکہ
نئی نسل راہنمائی حاصل کرے۔ (ناشر)

دور فلک کا ماجرا آپ سے کیا بیان کریں | تفرقہ دیکھئے ذرا ہم پر یہ ہیں عجیب دن
 عقل سپرد ماٹر، دل سپرد آنجناب | جسم سپرد ڈاکٹر، روح سپرد ڈارون |
 لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ اُن سے کہے کہ بھئی کمالات کی حد محض برق و تجارت
 ہی نہیں بلکہ قوت قدسیہ کی مدد سے ان لطائف عشرہ کا حصول ہے جو ذات
 بحت نے عالم خلق اور عالم امر کی امتزاج سے انسانی وجود کے اندر تعبیه کر رکھے ہیں
 اور جو حقیقت انسانیہ میں خلافت الہیہ کے حسن کے آئینہ دار ہیں۔ تو اس زمانہ کا
 شہتہ روتار ایک جان جنٹلمین ایک لمحے کے لیے بھی ایسی ثقیل اور بزرگم خود
 غیر فطری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

آج ہماری نظروں سے وہ تمام اہل بصیرت حضرات مستتر اور مخفی ہیں
 جنہوں نے محض ماکہ قدسیہ کی بدولت فطرت و خلافت الہیہ کے ان باریک
 راز ہائے درون پردہ کی نقاب کشائی کی جو آج بھی صد ہا سال کی کوشش ہائے
 پیہم کے باوجود مادی ذرائع کے رہیں منت معلوم ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں
 ریڈیو کی ایجاد نے اس حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے کہ کلام لفظی
 فضا میں محفوظ رہتا ہے۔ جسے ایک آکے کے ذریعے دور دراز مقامات تک
 انسانی سمع تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اب جدید تحقیق یہ ہے کہ تمام کلام
 جو ابتدائے افریش سے آج تک انسانوں نے کیے ہیں وہ سب فضا میں یعنی
 محفوظ ہیں اور شاید یہ کوشش ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر
 مصلحین کی تقاریر کو آلات کے ذریعے اخذ کیا جاسکے۔ لیکن یہی بات جو یہاں ان
 مادی اسباب کے ذریعے آج معلوم ہوئی۔ اس حقیقت کے انکشاف کا سہرا آج
 سے آٹھ سو سال پیشتر کے ایک صوفی کے سر پر ہے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں:

کہہ منصور نے خدا مہوں میں | ڈارون بولا بوزنا ہوں میں
 ہنس کے کہنے لگے میرے اک دست | نگر بر کس بقدر ہمت اوست
 (اکبر آبادی، مولف)

اما الحروف اللفظية فانها تتشكل في الهواء ولهذا اتصل
 بالسمع على صورة ما نطق بها المتكلم فاذا تشكلت في الهواء
 قامت بها ارواحها وهذه الحروف لا يزال الهواء يمسك عليها
 شكلها. وهذه الحروف الهوائية للفظية لا يدركها الموت
 لوجودها بخلاف الحروف الرقمية تقبل التغير والنزول
 لانها في محل يقبل ذلك والاشكال اللفظية في محل لا يقبل
 ذلك ولهذا كان لها البقاء فالجوكلم مملوء من كلام العالم
 يراه صاحب الكشف صورة قائمه (فتوحات جلد اول صفحہ ۱۹۱)

اس عبارت کا مختص یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی صورت ہوا میں
 قائم ہو جاتی ہے اور ان کی رد میں کائنات نضائی میں ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں بجلا
 تحریری حروف کے کہ وہ امتداد زمانہ کے باعث صفحات ہستی سے محو ہو جاتے ہیں
 کلام لفظی اس قسم کی موت اور بربادی سے محفوظ جوں کا توں باقی ہے اور صاحب کشف
 انہیں دیکھ سکتا ہے۔

جدت و ایجاد پر جان دینے والوں، اپنے ہاں کے قدیم علوم و فنون اور
 روحانیت کا مضحکہ اڑانے والوں اور دانایان فرنگ سے مرعوب ذہنوں کے
 لیے مقام حیرت ہے کہ آج یہ فخر بھی ہاتھ سے گیا اور جس تھیوری (نظریہ) کو
 وہ بیسویں صدی کا تازہ شاہکار سمجھ رہے تھے وہ آٹھویں صدی کے ایک
 کہنے بیاض سے ہاتھ آگیا ہے

نوجوان تشن لب خالی ایام | شہ رُو ماریک جان و شن دماغ
 کم نگاہ و بے یقین و نا اُمید | چشم شاہ اندر جہاں چیزے ندید
 اس قسم کی مقدس اور پاکیزہ انفاس ہستیاں اُمتِ مرحومہ کے اندر ہمیشہ
 سے ہمیشہ تک رہیں گی جن کے وجود مادی اور روحانی دنیا کے لیے باعث صد
 فخر و مباہات ہیں اور جن کی قیومت سے عالم کا قیام اور مجددیت سے دین کی

تجدید ہوتی چلی جائے گی۔ آقا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے امتیوں کو ایسے ایسے
 جلیل القدر مناصب عطا فرمائے کہ جنہیں دیکھ کر انبیائے سابق رشک کرنے لگے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملتحیون فی جلالی لہم منابر

من نور یغیظہم النبیین والشہداء

وقال علیہ السلام انی من عباد اللہ لاناس ماہم بانبیاء

والشہداء یغیظہم الانبیاء والشہداء اولیوم القیامت الخ

نویں صدی ہجری کے آغاز میں سادات مکان شریف کا مورث اعلیٰ عرب
 کی مقدس سرزمین سے مشعل ہدایت ہاتھ میں لیے منہ کی تاریکی کو دور کرنے کے
 لیے دیگر اولیاء اللہ کی طرح ایسے مبارک وقت میں وارد پنجاب ہوا کہ جس کی
 برکت سے نویں صدی سے لے کر چودھویں صدی کی ابتدا تک نسلاً بعد نسل ایسے
 ایسے بالکمال افراد ہوئے کہ جن کے تقدس کی شہرت کا سکہ ہر خاص و عام کے دل
 پر بیٹھ گیا۔ اور جن کے روحانی تصرفات اور کشف و کرامات کے چرچے گھر گھر
 ہونے لگے۔ مگر باایں ہمہ ان بزرگوں کے حالات کتاب کی شکل میں معرض تحریر میں آ
 کر آج تک ملک کی مروجہ زبان میں طباعت و اشاعت تک نہ پہنچ سکے۔ اب
 وقت کے اقتضائے حیثی فی اللہ قاضی قائم الدین کی طبیعت کو گرمایا اور یہ سعادت
 ان کی قسمت میں آئی۔ قاضی صاحب موصوف نے "ذکر مبارک" لکھ کر طمانیت
 قلب کا ذخیرہ فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور فرمائے۔

محمد منظور

مکان شریف

۱۰ رواہ الترمذی ۱۰۰ رواہ ابو داؤد و رواہ فی شرح السنۃ عن ابی مالک
 بلفظ المصابیح مع زوائد و کذا فی شعب الایمان۔ (مشکوٰۃ باب الحب فی اللہ و من اللہ م
 ناشر)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِأَعْيُنِنَا

بِأَعْيُنِنَا
وَلَنُرِيَنَّاهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ح

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں سے کہہ دو
کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے نکلنے
کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ استعمال کیا جاوے
تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں
سمندر کا پانی ختم ہو جاوے گا اگرچہ ویسا ہی اور
سمندر مدد کو لایا جاوے۔

قُلْ لَوْ كَانَتِ الْبِحْرُومُ كِتَابًا
تَكَلَّمْتُ بِهَا لَأَنْفَدْتُ الْبِحْرُومَ قَبْلَ
أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَسَوْ
جُنُودًا بِمِثْلِهِ مَكْدُودًا ۝

ہر شخص جاوے کہ اگر ایک تولہ پانی سیاہی کی جگہ استعمال کیا جاوے تو اس
سے کئی صفحات تحریر کیے جاسکتے ہیں۔ پانی کا ایک ٹنہ سینکڑوں کتابیں تحریر کرنے
پر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر کل چار ہاتھ، تالاب، دریا، جھیلیں، ندی، نالوں اور جوڑوں
کے پانی سے روئے زمین کے کل انسان مصروف، کتابت ہوں تو اس پانی کو ختم کرنے
سے عاجز ہو جاویں گے۔

یہ پانی صرف ربع مسکون کا ہے۔ اگر کل مخلوقات ازل سے قیامت تک اللہ تعالیٰ
کی حمد تحریر کرتی رہے تو بھی کل بحر ہائے ناپیدا کا پانی ختم ہونا مشکل ہے۔ پھر اگر ویسے
ہی اور سمندر بھی لائے جاویں تو بھی کلمات الہی کا احاطہ ناممکن ہے۔ اس مثال سے
واضح ہے کہ عقل انسان کی رسائی کہاں تک ہے اور انسان حمد یا کلمات الہی کی تحریر
سے کیسا عاجز ہے۔ خاتمہ اور خدا کو بھی عجز کے ساتھ ان کی شہادت کا اقرار کرنا پڑا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ناپختہ بندوں کو حمدِ الہی ایسے
عظیم الشان کام سے اپنے کاموں کی ابتدا اور قلم و زبان کو اس کے مفتخر و
متمبرک بنانے کی اجازت بخشی ہے فَلَحْمَدُ الْاَلٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔ ورنہ میرے
جیسے عاصی کی زبان و قلم کہاں اور حمدِ الہی کہاں۔ سُبْحَانَکَ عَلٰی عِلْمِکَ بَعْدَ عِلْمِکَ
سُبْحَانَکَ عَلٰی عَفْوِکَ بَعْدَ قُدْرَتِکَ اس کا حمد اور شکر کہ اس نے اپنا پاک نام لینے
کی اجازت میرے جیسے ناپاک انسانوں کو دی ہے۔

نعت

فَلَمْ يَكُنْ لَكَ مَوْلَاكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِدًا خَمِيرًا حَوْكًا نَسَاتِ عَالَمٍ مِنْ سَبْكِ
زیادہ حمد کہنے والے اور واقفِ آداب، رموزِ حمد میں جبکہ لاکھوں تیناؤں فرادوں
تو پھر کسی اور بشر کی کیا طاقت ہے حضرت امی الدین ابن عربی نے قصوں الحکم میں
کلمات کا ترجمہ پیغمبر ال کا کیا ہے جس کی سند قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ سَوَّلَ
اللّٰهُ دَوْلَمَثَلَهُ جَ اَلْقَهَا اِلٰی مَرْيَمَ ؑ كَوٰی آیت بالا سرور انبیاء علیہ السلام
کی تعریف میں ہے۔

پس جس طرح حمدِ الہی سے انسان عاجز ہے اسی طرح اس رَمَّة اللعالمین، رُوف،
رحیم کی نعت بھی انسانی امکان سے باہر ہے۔

وصفت خالق ہی جو فرمائے تو بندہ کیلئے ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت یا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں
بیان فرمائی ہے۔ آیاتِ بالا کی طرح آیاتِ قرآنی پر غور کرنے سے انسانی عجز کی حقیقت
معلوم ہو سکتی ہے۔ یوں تو سارا قرآن مجید آپ کی نعت سے پرست۔ ع
قرآنِ نبوتِ نعتِ معمورا

لہ اسم ذات کی اجازت ہی سلسلہ نقشبندیہ میں دی جاتی ہے۔ (مؤلف) تذاویب (۱۲۰۰)

لیں یہاں صرف مختصراً دو آیات اہل بصیرت کے غور کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم کو

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

لِلْعَالَمِينَ يٰ

اللہ تعالیٰ رب العالمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین۔ گویا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ

کی ربوبیت کام کر رہی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی موجود ہے۔ اگر جدید

تحقیقات کے مطابق مریخ میں ایک دنیا موجود ہو اور صرف مریخ پر کیا منحصر ہے

ہر ایک ستارہ میں اگر ایک دنیا آباد ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیے بھی رحمت

اللہ لعالمین ہیں۔ آسمانوں میں، زمین میں، ہوا میں، پانی میں، سمندروں کی تہہ میں ناقابل گزر

پہاڑوں کی چوٹیوں پر پتھروں کے جوف میں۔ ابستد میں، انتہا میں، ظاہر میں باطن

میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں۔ غرض دنیا اور آخرت میں اور جہاں تک انسانی

دماغ کی رسائی ہے اور جہاں رسائی نہیں ہر جگہ کے لیے اور ہر جگہ کی مخلوق کے

لیے آپ کی رحمت شامل ہے۔

تحقیق اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے

(۲) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ لَيُحْصِنُونَ

نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود بھیجتے ہیں۔ اسے

عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ایمان والو! تم بھی درود و سلام بھیجو اس نبی کریم

حَسِّنُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(صلی اللہ علیہ وسلم) پر۔

ساڑھے تیرہ سو سال سے کل روئے زمین کے مومنین درود و سلام پڑھتے ہیں جن میں

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور جملہ اوتاد و اقطاب اولیاء، صلحاء، غوث،

عاشقان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمین شامل ہیں اور نہ صرف مومنین بلکہ کل

فرشتے جن کا شمار انسانی عقول نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ ہر ایک انسان کے ہمراہ دو فرشتے

۱۷ (پ ۴ ع ۷)۔ ۱۸ زان سب فرمود حق صلوات علیہ کہ محمد بہت محتاج الیہ (مؤلف)

۱۹ (پ ۴ ع ۸)۔ (ناشر)

کراما کا تبین کل انسانوں سے یہی دو چند ہیں۔ اور علاوہ انہیں لا تعداد وہ پاک فرشتے جن کو نہ کھانے کی حاجت نہ شہوت نہ حرص نہ کوئی اور آلودگی ہے۔ اپنی پاک بانوں سے نہیں معلوم کب سے اور نہیں معلوم کب تک مصروف درود و سلام ہیں۔ کل انسانوں کے مقابلہ میں فرشتوں اور خصوصاً جبرائیل علیہ السلام کا درود و سلام اور پھر کل انسانوں اور کل فرشتوں کے مقابلہ میں خود اللہ جل جلالہ کا درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی کس قدر زبردست شہادت ہے۔ کل انسان ابد تک درود و سلام پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دفعہ درود و سلام کے برابر نہیں ہو سکتا پھر اللہ جل شانہ، معلوم کب سے درود شریف بھیجتا ہے اور کب تک بھیجتا ہے گا اس سوال کا کہ اللہ جل شانہ اس وقت کیا کرتا ہے۔ اس سے زیادہ صحیح جواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔

سبحان اللہ کس قدر بلیغ پیرا یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جہاں وہ ذات مقدس خود اور اس کے فرشتے مصروف درود و سلام ہوں وہاں انسانوں کی شمولیت کی کیا احتیاج ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا بندوں پر خاص احسان بہ تصدق اس رحمۃ للعالمین کے ہے کہ انسانوں کو اس کے پڑھنے کی اجازت دے کر ان کی عزت افزائی کی (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا) اور ان پر بے انتہا رحمتوں کی بارش کی گئی۔ اس احسان الہی کا ہم کس طرح شکر یہ ادا کر سکتے ہیں۔

از دست و زباں کہ برآید کز عہدہ شکرش بدآید

آج کل کے نعت نویس یا نعت خواں جو عشقیہ بازاری غزلیات میں تحریف کر کے نعت کا رنگ دیتے ہیں اور بجائے تعریف کے بے ادبی کے ترکیب ہوتے ہیں۔ ذرا قرآنی نعتوں پر غور فرمادیں اور دَرَمَا نَعْنَا لَكَ ذِكْرًا كَلِمَةً کا قرآنی انداز دیکھیں انسانی

عقلوں کی رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تک کہاں ہو سکتی ہے۔ وہ جس طرح
 حمدِ الہی سے عاجز ہیں اسی طرح نعتِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عاجز ہیں۔
 ببارؤف درحیمی خدا رُوفِ رحیم | دگر چہ سوو کہ گویم سخن بنا دانی
 یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہ تصدق اس رحمتہ اللعالمین، رُوفِ رحیم کے ہے
 کہ اس نے عاصی انسانوں کو اس کی اجازت دے کر ان کی عزت و تکریم فرمائی ہے ورنہ
 خدا در انتظارِ حمدِ مائیت | محمدِ شیم بر راہِ ثنائیت
 محمدِ حامدِ حمدِ خدا بس | خدا خود مدحِ خوانِ مصطفیٰ بس



لہ درود شریف کی اجازت اویا، اللہ کا معمول ہے جو دینی و دنیوی فلاح کے لیے اکیر ہے (مؤلف)

مذہب صرف اسلام ہے

اس قادرِ ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی بدیہی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جس سے سولے بہت مہرم اشخاص کے کوئی تسلیم الطبع بشر انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہی خصوصیتیں اسلام کو باقی مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں۔ ذیل کے مضمون میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ مضمون گو کتاب کے موضوع سے بے تعلق معلوم ہوتا ہے مگر امید ہے کہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا خصوصاً داروہا اور وڈیا مندر سکیم کے اس نظریہ کی تردید کے لیے کہ سب مذاہب یکساں ہیں۔ اس کی سخت ضرورت ہے تاکہ نوجوان اس کے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔

دنیا میں ابتدائے آفرینش سے ہستی باری تعالیٰ کا خیال چلا آتا ہے اور کوئی انسان اس خیال سے خالی نہیں۔ بعض لامذہب اور دہریے جو اسی ہستی کے منکر ہیں بالآخر ان کو بھی کسی طاقت کا قائل ہونا پڑا ہے۔

حلقہ سے سہراک گوش میں لٹکا تیرا	کانٹا سے سہراک جب گرم میں اٹکا تیرا
بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا	مانا نہیں جس نے تجھے جاننا ہے ضرور

بلبل نے چمن میں نغمہ گایا تیرا | آتش پہ مغال نے راگ گایا تیرا
 دہریوں نے کیا دہرے تعبیر تجھے | انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا
 بہر حال ہر زمانہ میں اور دنیا کے ہر گوشے میں اس مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ منکرین النادر کا معدوم۔
 بنی نوع انسان میں باوجود مذہب اور اپنے خالق کی ہستی کا خیال مشترک ہونے

کے صرف مذہب میں اشتراک و اتحاد نہ ہونے کی بنا پر شدید اختلاف رہا ہے، اور ہے۔ اکثر خونریزیاں خوفناک جنگ ہولناک محاربے اور مقاتلے صرف اختلاف مذہب کی وجہ سے ہوتے رہے ہیں اور دنیا فتنہ و فساد کا محشرستان بنی رہتی ہے۔

ہر ایک شخص اپنے مذہب کو سچا یقین کرتا ہے اور دیگر جملہ مذاہب کو باطل خیال کرتا ہے۔ دنیا کا ہر حصہ ایسے مناظر کا مظہر ہے۔ لیکن صراطِ مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ مذاہب کے حق و باطل پر کھنے کا اور صراطِ مستقیم معلوم کرنے کا کیا معیار ہے؟ کیا سب مذاہب سچے ہیں یا سب باطل ہیں۔ یا کیا صراطِ مستقیم ایک کے سوا کئی ہو سکتے ہیں؟

اگر یہ صحیح ہے کہ ہر ایک مذہب میں سچائی کا عنصر ضرور ہے اور ہر مذہب کی بنیاد صداقت کے اصولوں پر مبنی ہے تو پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ اس ایک خالق کی ساری مخلوق جو اسی ایک مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مذہب کی پابند ہے۔ اس میں کس قدر شدید اختلاف و افتراق ہے۔ اور ان سچائیوں اور صداقتوں میں اتنا بعد المشرقین کیوں ہے؟

جب مذہب نسل انسانی کی اخلاقی اصلاح اور اجتماعی بہتری کے لیے ہے۔ تو پھر یہ ابتری کیوں ہے۔ کیا منشاء الہی یہی ہے کہ مذہب کے نام پر خلقت کٹیڑی مارتی رہے۔ یا کیا یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے؟ نہیں سرگز نہیں یقیناً نہیں۔ خدا اپنے بندوں پر یہ ظلم روا نہیں رکھ سکتا اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ

ہر وہ مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں نوع انسان کی بھلائی، خوش اسلوبی سے رہنے کے طریق، اجتماعی زندگی کے گز، انسانوں کی بہبودی، خدا شناسی کے اسلوب اور اس واحد خدا کی پرستش کے ڈھنگ بتلائے گئے ہیں۔ خدا کے دین میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ منشاء الہی یا اس ایک خدا کا قانون یا مذہب صرف

ایک کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خالق کا کوئی حکم اپنی مخلوق کی فطرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔

ابتداء سے آفرینش سے جس قدر مذاہبِ حقہ سطح زمین پر نسلِ انسانی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی خلاقِ ارض و سما کی طرف سے ہیں۔ سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ خواہ اس کے ماننے والے کتنے ہی دور دراز ملک اور کتنے ہی متمدن یا غیر متمدن خطے میں آباد ہوں۔ وہ گورے کالے، سید پٹھان، چوہڑے چار۔ برہمن، شودر سب کے لیے یکساں ہے۔ خدا کے مذہب میں ذاتِ پات، اونچ نیچ کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے۔

ذاتِ پات نہ پوچھے کو | ہر کو بھیجے سو ہر کا ہو
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہی معزز ہے جو متقی ہے۔
 ہر خدا تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے (پیغام بر) نے اسی ایک دینِ الفطرت کی طرف سب لوگوں کو بلایا ہے۔ انسان اس پیغامِ الہی کو بار بار فراموش کرتے رہے۔ اور ہر بار بار گاہِ احدیت سے اس کی تجدید ہوتی رہی۔ ہر بار کچھ سرورِ زمانہ کی وجہ سے کچھ غلط فہمیوں سے کچھ عقائد کی نافرہمی سے کچھ بدعتی سے۔ کچھ تاویلاتِ باطلہ سے کچھ نفس پسندی اور آرام طلبی کے باعث۔ کچھ کتابِ الہی کے غلط تراجم اور کچھ تجزیسِ خطی کی معاشرت کے سبب لوگ اس پیغامِ الہی کو بھولتے رہے اور ہر بار اسی پیغام یا قانون کو پہلے سے زیادہ واضح اور مطلب خیز الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اصل دینِ الہی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ بلکہ اس کی تجدید و تکمیل ہوتی رہی۔ المختصر یہ کہ خدا تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ اور ہر زمانہ میں (دقتی اور مقامی ضرورتوں کے مطابق فردعی اختلاف کو نظر انداز کرتے ہوئے) انسانوں تک پہنچتا رہا ہے۔ چونکہ وہ ایک خدائے برتر کی طرف سے تھا۔ ہر جگہ اور ہر وقت اس کا ایک ہی مقصدِ وحید

(صلاحیت انسانی) رہا ہے۔

جب اور جہاں بھی اس پیغام میں اس قدر تغیر و تبدل کیا گیا جس سے اصل اصول دین جن پر مدار نجات تھا بننے لگے تو نئے پیغامبر کے ذریعہ اس کی تجدید ہوتی رہی۔ اصول ارتقاء کے ماتحت جس طرح ہر چیز اپنے ابتدائی منازل طے کرتی ہوئی گام تک پہنچتی ہے اور اسی طرح جس طرح ڈارون نے اپنی تھیوری میں جمادات سے لے کر ارتقائی منازل دکھاتے ہوئے اشرف المخلوقات انسان پر اس کو ختم کیا ہے۔ اور انسانوں میں سے ایک عرب کو اس ارتقاء کی آخری تکمیل کی منزل تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح مذاہب عالم کی انتہا اور آخری تکمیل اسلام پر آکر ختم ہوتی ہے۔ یا جس طرح پیدا ہونے کے بعد انسان کی جسمانی ترقی ایک حد تک پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ نہیں سکتی۔ اسی طرح اسلام ارتقاء کی آخری منزل اور آخری مکمل مذہب ہے جس میں اب کسی مزید تکمیل کی گنجائش نہیں ہے۔

اسلام کا آخری مکمل مذہب ہونے کا دعوے صرف زبانی یا خوش اعتقادی پر مبنی نہیں ہے۔ اس قسم کا دعوے کرنے کا ہر مذہب کو حق حاصل ہے۔ اس لیے جملہ مذاہب کو دلائل کی لمحک پر پرکھنا ضروری ہے۔ بے جا حماقت اور تعصب کی عینک آمار کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ راقم الحروف مسلمان ہے اور بمقابلہ دیگر مذاہب اس کو اسلام کے مطالعہ کا زیادہ موقع ملا ہے۔ لیکن ہمیں خلوص نیت سے نہایت ایمان داری کے ساتھ ہر ایک مذہب کو منجانب اللہ سچا سمجھ کر دل و دماغ کو ہر ایک قسم کی حمایت کے تاثرات سے پاک کر کے انصاف کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔

خدا تعالیٰ ہماری نیتوں کا جاننے والا اور ہماری صاف باطنی کا گواہ کافی ہے۔ ایک سلیم الطبع سعید الفطرت طالب صداقت جس کا دماغ ہر ایک قسم کے مذہبی اثرات سے صاف ہو۔ جب منشائے الہی معلوم کرنا اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہونا چاہیے تو وہ ہر ایک مذہب کے مالہ و ما علیہ پر کامل عبور

86667

کرنے کے بعد صداقت کی تلاش نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے تو عمرِ نوحؑ چاہیے۔ البتہ اس کو اس کے سوا چارہ نہ ہوگا کہ وہ کم از کم اس قدر اطمینان تو کر لیوے کہ وہ پیغامِ الہی جو کسی الہامی کتاب کی صورت میں ہر مذہب میں موجود ہے۔ وہ غیر محرف اور اصلی الفاظ میں کہاں مل سکتا ہے۔ کیونکہ اگر پیغامِ اصل الفاظ میں نہ مل سکے گا تو اس کا مفہوم بھی مشتبہ ہو جائے گا۔ اور جس زبان میں وہ کتاب نازل شدہ ہے، کیا وہ زبانِ بعینہ اسی حالت میں جو نزولِ کتاب کے وقت تھی کہیں بولی جاتی ہے۔ کیونکہ کسی زبان کا صحیح مفہوم اور محاورات کے صحیح مطالب سوائے اہل زبان کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اس کتاب کے جملہ احکام بھی عین فطرتِ انسانی کے مطابق ہوں۔ کیونکہ جب تک صحیح الفاظ اور صحیح معانی معلوم نہ ہوں اور اس کتاب کے جملہ احکام مطابق فطرت نہ ہوں۔ صحیح طور پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ بھی اطمینان کرنا ہوگا کہ جو مجموعہ احکام الہامی الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس تک صحیح طور پر پہنچا یا گیا ہے۔ اگر پہنچانے والے کی دیانت و امانت میں کچھ شبہ ہو یا اس کے حالات کا علم نہ ہو تو بھی اس پیغام کی صحت مشکوک ہو جائے گی۔

اس لیے اس پیغامِ الہی کو انسانوں تک پہنچانے والے (پیغام بر) کے حالات زندگی بھی معلوم ہونے ضروری ہیں کہ اُس نے اپنی زندگی دنیا میں کس طرح بسر کی۔ کیا اس کے تعامل سے اس بات پر یقین کیا جاسکتا ہے کہ اس نے وہ پیغام صحیح طور پر پہنچا دیا ہے؟ مختصراً یہ:

- (۱) کون سی الہامی کتاب اصل الفاظ میں محفوظ ہے؟
- (۲) اس الہامی کتاب کی زبانِ زمانہ نزولِ کتاب سے لے کر اب تک جوں کی توں کہیں مروج ہے؟
- (۳) مضامین کتاب عین فطرتِ انسانی کے مطابق ہیں؟
- (۴) پیغام پہنچانے والے کی زندگی کے حالات اور اس کا تعامل اس کتاب کی صحیح تفسیر ہے؟ کیونکہ جب تک پیغامِ الہی کی صحت کا یقین کامل نہ ہو جائے

اس کو قابل تعمیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معیار کے مطابق کون سی الہامی کتاب محفوظ اور قابل تعمیل مل سکتی ہے۔

(۱) اصل الفاظ کی حفاظت بدول حفاظت کے نہیں ہو سکتی کیونکہ تجنیس خطی اور سہو کتابت سے اس میں تغیر آسکتا ہے اور تحریف و تبدیلی ہو سکتی ہے۔ حفاظت بھی نزول کتاب سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت تک ہی نہیں بلکہ جس وقت تک وہ کتاب قابل عمل درآمد ہے۔ متواتر اور بکثرت ہوں۔ جنید حافظ کسی وقت رہے ہوں اور بکثرت اور متواتر نہ ہوں تو صحت کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔

اب کل دنیا کے مذاہب کی الہامی کتابوں پر نظر ڈالو۔ توریت، انجیل، آزداء اُستا، وید ہستی کہ گوردگرتھ صاحب کو بھی اگر الہامی کتاب کہا جائے اور ان پر ہی منحصر نہیں روئے زمین کی کوئی ایسی کتاب جو الہامی ہونے کی دعویٰ دار ہو اور اس کے حافظ بکثرت اور نزول کتاب سے اب تک متواتر ثابت ہو جاویں تو اس کے الفاظ صحیح اور محفوظ ورنہ ناقابل اعتبار۔

ہمارا دعوئے ہے کہ سوائے قرآن شریف کے کسی الہامی کتاب کو فیضیت حاصل نہیں۔ ہر ایک کتاب پر بحث کی ضرورت نہیں۔ خود ان کتابوں کے متبع اس کے شاہد ہیں۔

قرآن شریف کی یہ حفاظت اتفاقیہ نہیں ہے۔ بلکہ خود خدا تعالیٰ کا فرمان ہے جس پر قرآن شریف شاہد ہے کہ:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ | ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ (پہلے ۱۷)

ان الفاظ کی صداقت پر غور کرو۔ اور دیکھو کہ کس معجزانہ طریق سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نزول کتاب سے لے کر اب تک ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ زیر زیر تک محفوظ ہے۔ اگر روئے زمین سے قرآن شریف مجھ بھی ہو جائے تو حفاظت کی زبان سے اسی طرح قلمبند ہو سکتا ہے کہ اس میں مطلق کوئی فرق اور

شوشہ تک کا اختلاف نہ ہوگا۔

اگر کوئی ایسی کتاب پیش کی جاسکتی ہو تو پیش کی جاوے۔ ہم اس کے تسلیم کرنے کو تیار ہیں ورنہ غیر محفوظ اور مشتبہ احکام قابل تعمیل نہیں قرار پا سکتے۔

(۲) جب کوئی قانون منسوخ ہو جاوے تو وہ قابل عمل درآمد نہیں رہ سکتا۔ بظاہر قانون الہی کے متعلق کوئی صحیح معیار قائم کرنا مشکل ہے۔ کہ کونسی کتاب منسوخ شدہ ہے اور کون سی قابل عمل درآمد۔ لیکن قدرت کا ایک زبردست اور ناقابل انکار فیصلہ اس کے متعلق موجود ہے کہ بوجہ تحریف و تغیر جو کتابیں منسوخ ہو کر قابل عمل درآمد نہیں رہیں ان کی زبان بھی خدا تعالیٰ نے (منسوخ کر کے) صفحہ مستہی سے اٹھالی ہے۔

نزول قرآن سے پہلے جو الہامی کتابیں نازل ہوئیں ان کی وہ زبان جس میں وہ کتابیں اتاری گئیں۔ دنیا کے کسی حصہ میں آج بولی نہیں جاتی حتیٰ کہ نزول قرآن کے بعد بھی اگر کسی کتاب کو الہامی ہونے کا دعوے ہو تو اس کی زبان بھی اپنی اصلی حالت میں کہیں مروج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گوردو گرنٹھ صاحب کو لیجئے۔ اگر اس کو الہامی کتاب مان لیا جاوے تو اس کی زبان ہی اب کہیں بولی نہیں جاتی۔ یہ امر بھی اتفاقاً نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے زبان عربی کو (عربی مبین) فرمایا ہے اور باقی زبانوں کو عجمی۔ اور عجمی کے معنی گونگے کے ہیں۔ گویا زبان عربی ہی واضح اور قابل عمل درآمد ہے۔ باقی زبانیں عجمی یا گونگی یا منسوخ شدہ ہیں۔

زبان عربی کی اس سے زیادہ واضح اور بین ہونے کی اور کیا قدرتی اور زبردست شہادت ہو سکتی ہے کہ قطعہ حجاز علاقہ عرب (جہاں قرآن مبین نازل ہوا) کی زبان اس وقت بھی وہی ہے جو نزول قرآن کے وقت تھی۔ متعدد محققان یورپ نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہر زبان پچاس سال کے بعد اور پچاس کو س پر جا کر کچھ بدل جاتی ہے۔ لیکن قطعہ حجاز کی زبان اس مکان و زمان کے اثر سے محفوظ ہے۔ یہ قرآن شریف کی صداقت اور آخری مکمل پیغام ہونے کا اعجاز کس قدر محیر العقول ہے۔ جب اہل زبان نہ ہوں تو ترجمے میں بہت کچھ رطوبت یا بس کی کھپت ہو سکتی ہے۔ مطالب کے توڑ مروڑ جاری

رہ سکتی ہے۔ اور اہل زبان کے سوا الہامی کتاب کا مفہوم ناممکن الحصول ہوگا۔
ایسی صورت میں کسی طالب صداقت کا سوائے قرآن شریف کی طرف رجوع
کرنے کے چارہ نہیں۔

(۳) ہر سوسائٹی کے قیام کے لیے چند قواعد کی بطور اصول موضوعہ ضرورت ہوا
کرتی ہے جس کی پابندی کے بغیر سوسائٹی کا اجتماعی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ وھوذا۔

(۱) ان قواعد کا مرتب کرنے والا ہو { خدا کے تعالیٰ = امنت باللہ
یعنی قانون ساز

(۲) ان قواعد کا سوسائٹی تک پہنچانا
اور مشہر کرنا
(۳) خود مجموعہ قواعد
فرشتگان و رسل { وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ } کتب

(۴) قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے
خلاف تعزیری کارروائی اور اس کے
وقت کا تعین
جزا و سزا اور یوم قیامت { وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(۵) ان قواعد کی صحت کا یقین اور
تعمیل کا اقرار
اقرارسانی و { اِقْرَأُوا بِاللِّسَانِ وَ
تصدیق قلبی { تَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ

پس ایک مومن کے بھی یہی صفات ایمان ہیں اور دین الفطرت (اسلام) سے
قریباً ہر مذہب میں نسلی اور ملکی امتیاز قائم ہیں۔ برہمن اور شورو کے حقوق کیسا
نہیں۔ کالے۔ گورے یورپین اور انڈین کے حقوق میں اختلاف ہے کہیں اکثر انسانوں
کو پیغام خدا (کتاب الہی) کے پڑھنے بلکہ چھونے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ (کہیں
بعض انسانوں کے لیے خدا کی بادشاہت کا دروازہ بند ہے) کہیں بے قصور انسان پیدائشی
گنہگار ہے اور کہیں وہ پچھلے کرموں کے پھل میں گرفتار ہے۔

صرف مذہب اسلام ہی وہ دین الفطرت ہے جو تمام نبی نوع انسان کے
لیے یکساں رحمت ہے جس کا دروازہ ہر نسل، ہر رنگ، ہر ملک کے انسانوں کے

یہ قطع نظر اس کے کہ وہ برہمن ہے یا شہور۔ یورپ کا سفید فام ہے یا افریقہ کا
 کالا کلوٹا حبشی فلا سفر ہے یا جاہل سب کے لیے کھلا ہے۔ جہاں شہنشاہ اور
 غلام میں فرق نہیں۔ جہاں محمود ایاز کے دوش بدوش ایک صفت میں کھڑے ہونے
 پر نازاں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے
 زر خرید غلام تھے۔ خاندان نبوت (اہل بیت) کے درجہ پر فائز ہو جاتے ہیں۔ حضرت
 بلال کو جو نبوت پرستوں کے حبشی غلام تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درجن
 کی بیعت اور سطوت سے قیصر و کسری لرزہ بر اندام تھے (آقا کہہ کر پکارتے ہیں۔
 مندو اچھوتوں کو نہ ملا سکے۔ عیسائی ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا گال تھپڑ کھانے
 کے لیے پیش نہ کر سکے۔ کہیں رسم سستی کو چھوڑ کر ہوگان کے نکاح کی ضرورت۔ کسی مہاتما
 کو اچھوتوں کی اصلاح مطلوب ہے۔ کہیں یورپ میں عورتوں کی کثرت کثرت ازدواج
 کی متقاضی ہے۔ کہیں روس کی لاندہی میں مسئلہ عدت کی تلاش ہے۔ غرض ہر مسئلہ
 کا مکمل حل اس آخری پیغام کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ سب کچھ بحث کے
 لیے نہیں ہے بلکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ دین الفطرت ہے۔ (الْاِسْلَامُ
 دِيْنُ الْفِطْرَةِ ۵)

انسان فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ غالباً کوئی الہامی کتاب اپنے اندر یہ دعویٰ
 نہیں رکھتی۔ نہ اس کو نباہ سکی ہے۔ دنیا اسلام کے انکار کے باوجود اس کے اصولوں
 کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو رہی ہے۔ یہی اس کے دین الفطرت ہونے کا سب سے
 بڑا ثبوت ہے۔

(۴) جب تک اس شخص کے حالات زندگی جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو
 اور جو اس کی نشر و اشاعت پر مامور ہو۔ معلوم نہ ہوں اور اس کی امانت و صداقت
 قبل از دعویٰ نبوت اور اس کتاب کے مطابق اس کی عملی زندگی بعد از دعویٰ
 نبوت ثابت نہ ہو۔ اس کی پیش کردہ کتاب کو الہامی اور منجانب اللہ مان لینا مشکل
 ہے۔ اب ہر ایک مذہب کے پیغمبر کے حالات پر نظر کرو اور اچھی طرح تحقیق

کر اور دیکھو کہ دنیا کے کسی ایسے انسان کی زندگی اس قدر روشن اور اس قدر پُر از صداقت مل سکتی ہے؟

کون ہے جس کو ملک اور قوم نے اور ملک اور قوم بھی کیسی جو صدیوں حرب الفجار جیسی لڑائیوں میں مصروف رہ کر آپس میں شدید اختلاف رکھتی ہو متفقہ طور پر قبل از دعوت نبوت صادق اور امین کا خطاب دیا ہو اور کون ہے جس کی بعد از نبوت كَانَ خُلِقَ الْقُرْآنَ ترجمہ (آپ کا اخلاق ہمہ تن قرآن تھا) کے الفاظ سے تصدیق کی گئی ہو اور پھر کون ہے جس کو بارگاہ خداوندی سے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ کی سند ملی ہو۔ اور کون ہے جس کی زندگی کا ایک ایک واقعہ نہایت احتیاط کے ساتھ قلمبند کیا گیا ہو۔ اور جس کی تصدیق کے لیے اسماء الرجال کی کتب میں تیرہ ہزار راویوں کے حالات لکھے گئے ہوں۔ یقیناً کوئی مذہب اپنے پیغمبر کے اس قدر روشن حالات زندگی پیش نہیں کر سکے گا۔ پس جس مذہب کے پیغمبر کے حالات قبل و بعد از دعوت معلوم نہ ہوں۔ اس کے لئے ہوئے پیغام پر کس حد تک اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

تمام دنیا میں وہ صرف ایک ہی ذات گرامی (فِدَاؤُہٗ اِجْتِذَاہِی) جو خدا کا آخری اور مکمل پیغام کل ساکنان زمین کے لیے لے کر آیا ہے۔

اب اس قدر بحث کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے۔ کہ صرف قرآن مجیدی ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو تاریخ نزول سے لفظاً و معنیاً ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ اور قیامت تک ہے گی۔ صرف اُسی کے احکام مطابق فطرت ہیں اور صرف اُسی کا لانے والا قرآن نازل ہونے سے پہلے صادق اور امین مشہور تھا۔ اور صرف اُسی نے کتاب الہی کے مطابق عامل ہو کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (تحقیق آپ کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے) کا طغرائے امتیاز حاصل کیا۔

اور دشمنانِ اسلام، نصحاء، بلعائنہ اس کا جواب اب تک دے سکے ہیں نہ قیامت تک دے سکیں گے۔

کوئی ہے؟

جس کے سینہ میں دل اور دل میں سچائی اور سر میں دماغ اور دماغ میں عقل موجود ہو اور پھر اس قرآن کو کلامِ خدا نہ مانے اور اس کے پہنچانے والے کو ظالم البتین نہ مانے۔

اب اس قرآن کریم کی صداقت کا خود اندازہ کر لو کہ :

<p>خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جاوے گا۔</p>	<p>اِنَّ الْمَدِيْنَةَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ لَئِنْ</p>
--	--

غور کرو کہ ان حالات کے بعد اسلام سے اعراض یا انکار کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟

فِيْ اَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ ۱۰ لِيَوْمِنُوْنَ ۱۱ (اب اس کے بعد تمہارے ایمان لانے کے لیے اور کون سی بات ہوگی) کیا اب یہ کہنے میں حق بجانب نہ ہوں گے کہ دنیا کے ہر سمجھ دار انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اور اعلان کر سکتے ہیں کہ ۱۰

کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو



تہذیب

یہ سنت اللہ ہمیشہ سے جاری رہی ہے کہ جب کسی دین میں تحریت ہوئی اور اصول نجات بدلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تجدید کے لیے ایک نیا نبی مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف آئے لیکن خاتم النبیین ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ لَعَلَّ بِنُورِ آيَاتِنَا يَهْتَدُونَ۔
نبوت آپ پر ختم ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا۔ اب نہ کسی جدید نبی کی ضرورت ہے۔ نہ دین مکمل کے بعد اور کسی دین کی۔

اللہ غافل انسانوں کی مزید ہدایت کے لیے انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اس امت میں اولیاء اللہ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔
مسلمانوں کا فرض ہے کہ جس طرح انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے حالات کو محفوظ رکھا ہے۔ اولیاء اللہ کے سوانح حیات کبھی محو نہ ہونے دیں۔ اور یہ فرض ان کا صرت اخلاقی فرض ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ فرض ان پر بڑے شد وند کے ساتھ عاید کیا گیا ہے۔

ہم پانچوں وقت نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے وقت بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ | ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی یعنی ان لوگوں
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ | کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔
أَبْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی قرآنی تفسیر ملاحظہ ہو۔ ارشاد ہے:

لہ (پ ع) - (سورہ فاتحہ) - (ناشر)

النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالصَّالِحِينَ
وَالصَّالِحِينَ | النبی صدیق، شہید اور صلحاء وہ ہیں جن پر
اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔

گویا انبیاء، صدیقین، شہداء صالحین کے راستہ پر چلنے کے لیے ہدایت اور استعانت
طلب کرتے ہیں۔ جب تک ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو اور اسوہ حسنہ پیش نظر
نہ ہو ان کے راستہ پر چلنا مشکل ہے تو انبیاء کی طرح صدیقین و شہداء و صلحاء کی سیرت
کا بھی مکمل رکھنا مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ انہیں دیگر مذاہب اور اہم سابقہ کی فراموش کاری
سے عبرت پذیر ہونا چاہیے۔

خیر الامم کا طغرائے امتیاز ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اور اپنے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کامل طور پر محفوظ رکھا ہے۔ تو انہیں دیگر انعام یافتہ لوگوں
کی سوانح کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایک اور مغالطہ یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ اور صلحاء نے
اپنی زندگی میں اپنے حالات زندگی اور مقالات کے تحریر کرنے اور محفوظ رکھنے کی اجازت
نہیں دی ہے۔ اس لیے ان کے معرض تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ مگر اس کے
متعلق یہ بات بھی مد نظر رکھنے کے قابل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حدیث
شریف کی تحریر کی کب اجازت دی تھی؟

مگر جب تابعین اور تبع تابعین کو ان آثار کے ٹٹنے کا خوف ہوا۔ اور قرآن کریم
کے محفوظ ہونے کے باوجود حدیث شریف کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں
نے حدیث شریف جمع کرنے اور محفوظ کرنے میں وہ محنت کی جس کی نظیر دنیا کی کوئی قوم
پیش نہیں کر سکتی۔

جس طرح احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف آیات قرآنی کا مضمون
ایک جملہ میں بیان کیا گیا ہے بعینہ اسی طرح اولیاء اللہ کے ملفوظات میں آیات قرآنی
اور احادیث نبوی کی نہایت موزوں اور دلنشین پیرایہ میں تعلیم موجود ہوتی ہے۔ ان

بزرگوں نے کَلِمُوا النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُنُودِهِمْ کی تعمیل میں اپنی زبان میں نہایت سادہ اور عام فہم طریق پر قرآنی مطالب اور احادیث کے مفہوم کو ذہن نشین کرایا ہے۔ ان کی زندگیوں اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کر دیتی ہیں۔ اور ان کی حیات طیبہ کا عملی رنگ اہل بصیرت کو صراطِ مستقیم دکھا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اجتماعی اور قومی زندگی کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ کہ اپنی قوم کے مشاہیر کی یاد تازہ رکھی جاوے۔

زندہ قومیں اپنے رہنماؤں کو زندہ رکھتی ہیں۔ اور جو ان کو مٹا دیتی ہیں وہ خود مٹ جاتی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔

نام نیکانے زندگان ضائع مکن تا بماند نام نیکت برقرار
 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بصائر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمایا ہے۔ آنکھ خواہ ندرست اور روشن ہی کیوں نہ ہو بغیر بیرونی روشنی (سراج منیر) اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس ظلمت کدرہ دنیا میں انسان کی راہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف جو نور السموات والارض ہے۔ سوائے بصائر قرآنی اور سراج منیر کے ہو نہیں سکتی۔ گویا قرآن شریف مجموعہ احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ چلا ہوں۔ قرآن حکیم اور آل اطہر۔ قرآن شریف مجموعہ احکام و قوانین اور آل اطہر اس کا عملی رنگ۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث اور قائم مقام سے جب تک عملی نمونہ سامنے نہ ہو۔ عمل ہونا مشکل ہے۔ ایسی نورانی ہستیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کیا ہے۔ سراج منیر کی قائم مقام اور قرآن شریف کی عملی تفسیر ہیں۔ ان کے سوانحات اور ملفوظات کا تازہ اور محفوظ رکھنا قرآن فہمی اور راہنمائی کے لیے ضروری ہے۔

چونکہ آج کل اخلاق قرآنی کے نمونوں کی از حد کمی ہو رہی ہے اور خلف ہیں سلف کا

علیٰ رنگ، بالکل مفقود ہو رہا ہے۔ دین کا شوق کم ہو رہا ہے۔ عالم عمل سے مُعزاً ہو رہے ہیں۔ ان میں خلقِ عظیم کی جھبک دکھائی نہیں دیتی جو قرونِ اولیٰ میں نظر آتی تھی! اس لیے ایسے حضرات کا تذکرہ جو مخلق باخلاق اللہ کی قلوب میں روشنی پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ آلِ اطہرِ صحیح معنوں میں وہی ہو سکتی ہے۔ جو آپ کے اُسوۂ حسنہ پر ہو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

جس طرح اللہ جل شانہ نے آلِ ابراہیم کو فضیلت اور برکت دے کر وراثتِ نبوت عطا فرمائی۔ اُسی طرح آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم (خاتم النبیین) میں وہ علم و ورثہ الانبیاء کا نبی کے بنی اسرائیل اور اولیاء اللہ الآتِ اُولِیَاءِ اللّٰهِ لِأَخْوَفِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے مصداق پیدا کیے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کل جہان کو اپنی عالمتاب کرنوں سے منور کر دیا اور طالبانِ حق کے سینوں کو نورِ اسلام سے روشن اور دلوں کو سکینہ اور ایمان سے بھر دیا۔ کفرستان مند کے اس حصہ میں جہاں کافِ کُن سے لے کر شرک و الحاد، کفر و بت پرستی کا گھٹا لوٹ پانڈھیرا چھایا ہوا تھا۔ اور ظلم و ستم قتل و غارت جس کے نام زڑ چھتر سے اب تک مُتر شمع ہے۔ وہاں آلِ اطہر کے ایک صحیح النسب خاندان کے چند افراد نے وہ نور ہدایت پھیلا یا جس پر اطراف و اکناف کے لوگ بلکہ پنجاب و ہندوستان سے کزر کر کابل، بدخشاں، عرب عجم کے طالبانِ حق پروانہ دار جانیں قربان کرنے لگے۔ اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس آخری زمانہ میں تازہ کر دی۔

اور مصداق شرف المکان بالمکین زڑ چھتر جیسی جگہ کو مشرف بنا کر مگشا شریف بنا دیا۔ ان بزرگان کے حالات ایسے مخفی ہیں کہ وہاں کے ملنے والے اور معتقدین کو

بھی معلوم نہیں۔ اور جو کچھ زبانی روایات مشہور اور متواتر چلی آتی ہیں۔ وہ بھی نیا نیا ہو رہی ہیں۔

وجہ تالیف

۱۹۲۹ء میں بموقعہ عرس شریف حضرت مولانا مظہر اللہ صاحب اہم مسجد فتح پوری دہلی نمبرہ حضرت مولانا محمد مسعود صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکان شریف تشریف لائے حضرت نے ان کو وفات سے ایک سال پیشتر تحریر فرمایا کہ مولوی رکن الدین صاحب کی معرفت بلوایا تھا جب ۱۹۲۹ء میں عرس مکان شریف میں تشریف لانے کا اتفاق ہوا تو مولانا صاحب کو اپنے پیرومرشد کے حالات معلوم کرنے کا اشتیاق تھا۔ چنانچہ حکیم نظام الدین صاحب ساکن پجگرا میں واہلہ جو آپ کے برادرِ طریقت تھے۔ بلو کر کچھ حالات سننے لگے جو کہ زبان کی مناسرت اور حالات کی کمیابی کے ان کا شوق پورا نہ ہوا۔ انہوں نے حکیم صاحب سے حضرت کے حالات قلمبند کرنے کی فرمائش کی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت کے حالات مل جاویں تو طبع کرادیئے جاویں۔

دوسرے سال ۱۹۳۰ء میں مولانا ممدوح مبعہ مولوی رکن الدین صاحب الوری مرحوم بموقعہ عرس شریف تشریف لائے اور حالات و واقعات مکان شریف کی اس لیے جستجو کی گئی کہ مولانا رکن الدین صاحب ایک شجرہ طریقیہ خاندان نقشبندیہ جس میں اس سلسلہ عالیہ کے ہر ایک بزرگ کے حالات کا مختصر تذکرہ ہو۔ شائع کر کے انتظام فرما رہے تھے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب کو اس کام پر مامور کر دیا تھا۔

حضرت سید صادق علی شاہ صاحب مرحوم (مؤلف) نے حضرت مولانا محمد مسعود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لیے تذکرہ مظہر مسعود دہلوی (جی) کا مطالعہ فرمایا۔ مولانا محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات "مصباح السالکین" اور "مزمع جانا" میں ملاحظہ فرمادیے۔

جناب مولوی مظہر اللہ صاحب دہلوی کے ایما اور قبیلہ حکیم نظام الدین صاحب کے اصرار پر خاکسار نے جو یادداشت قلمبند کرنی شروع کر دی تھی۔ جس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ میں صرف مشائخان طریقت کے حالات لکھ رہا ہوں تم مکان شریف کے جملہ بزرگان کے اجدادی حالات تحریر کرو۔

ادھر ان حالات کی اشاعت کی ضرورت اور اہمیت کا احساس تھا اور ادھر اپنی بے علمی کم مائیگی پیش نظر تھی۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ پہلے کبھی تصنیف تالیف کا کام نہ کیا تھا۔

گویم مشکل و گردگویم مشکل

کی کش مکش میں گرفتار رہا۔ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم الشان کام کے قابل اپنے آپ کو نہ پاتا تھا۔ اس لیے یوں ہو کر اس خیال کو ترک کر دیا جاتا۔ لیکن کسی دوسرے اہل علم کو اس کام کی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی ضرورت کا احساس ہوا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ بالآخر اس خیال سے کہ تَنْزِيلُ الْيَحْمَلَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّابِنِ کی تکمیل میں جس قدر وقت اس طرف صرف کر دینگا۔ وہی میری نجات کا موجب ہوگا۔ اور محض اس ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ذِكْرُ الْاَوْلِيَاءِ حِكْمَةٌ لِّلْقُلُوبِ وَكَفَّارَةٌ لِّلذُّنُوبِ (اولیاء اللہ کا ذکر دلوں کے لیے حکمت اور گناہوں کے لئے کفارہ ہے) تو کلت علی اللہ لکھنا شروع کر دیا۔

بزرگان مکان شریف کے جس قدر حالات بھی محفوظ رہے ہیں وہ غیر مطبوعہ کتاب آیات القیومیہ اور عالی جناب سید میرزا بد صاحب مرحوم کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہیں اور اس تذکرہ کے ماخذ زیادہ تر آیات القیومیہ اور میر صاحب مرحوم کے تحریر کردہ حالات ہیں۔ میں نے صرف واقعات کو یکجا کر کے نقل کر دیا ہے۔



حالات سادات مکان شریف

شجرۂ نسب

۱۱- حضرت امام محمد تقی	۲۳- سید صدر الدین
۱۲- حضرت امام محمد تقی	۲۱- سید غالب
۱۳- حضرت امام حسن عسکری حضرت جعفر نقی	۲۵- سید ولی اللہ
۱۴- سید اسماعیل	۲۶- سید نعمت اللہ
۱۵- سید عبدالرحمن معروف ناصر	۲۷- سید فخر الدین
۱۶- سید عبدالرحیم	۲۸- سید ابوالمبارک
۱۷- سید غالب	۲۹- سید فتح اللہ
۱۸- سید جلال	حضرت سید انیسال صاحب رحمۃ اللہ علیہ
۱۹- سید احمد	۳۰- (سورث اعلیٰ مکان شریف)
۲۰- سید طالب	۳۱- سید خواجہ
۲۱- سید زین العابدین	۳۲- سید ابوالعالی
۲۲- سید جلال الدین	۳۳- سید عارف
۲۳- سید صدر الدین	۳۴- حضرت سید شاہ محمد صاحب

۱- ہاشم

۲- عبدالطلب

۳- عبداللہ ابوطالب

۴- سیدنا محمد مصطفیٰ حضرت علی
صلی اللہ علیہ وسلم کرم اللہ وجہہ

۵- سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام

۶- حضرت امام زین العابدین

۷- حضرت امام محمد باقر

۸- حضرت امام جعفر صادق


۹- حضرت امام موسیٰ کاظم

۱۰- حضرت امام علی رضا

۱۱- حضرت امام محمد تقی

نوٹ: تحقیق و تفصیل کے لیے دیکھیے ضمیمہ مرآة الانساب مرتبہ جناب محمد ضیاء الدین احمد علوی نقشبندی قادری
چشتی امدادی شاذلی مروہی مؤلف کتاب مذکور (یہ نسخہ پھلیر شریف میں موجود ہے) ناشر

حضرت سید شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ



حضرت امام تقی علیہ السلام دو ازدہ اماموں میں سے ہیں۔ آپ کے اور
 آپ کے آباؤ اجداد کے حالات کتب سیر میں بالتفصیل درج ہیں

حالاتِ خاندان

اس لیے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں البتہ آپ کی اولاد کا تذکرہ مجلاً عرض ہے۔

امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزندِ دوم تھے۔ اور خلفِ ابر حضرت
 جعفر ثواب

امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ جب خلیفہ مقتدر نے ۲۶۰ھ
 میں حضرت امام حسن عسکری کو زہر دلو کر شہید کرایا۔ تو جعفر کے دل میں خیال آیا کہ میں
 نے بھی دعویٰ امامت کیا ہے۔ مبادا مجھے بھی ہلاک نہ کیا جاوے۔ چنانچہ اس خیال
 سے آپ نے سامرہ سے نکل جانے کا قصد کیا جب محمد بن عسکری اور دیگر اراکینِ خاندان
 کو اس کا علم ہوا۔ تو انہوں نے اس ارادہ سے آپ کو منع کیا۔ کہ آپ کا یہاں سے
 جانا قرینِ مصلحت نہیں۔ کیونکہ اس خاندان کا آپ کے سوا کوئی سرپرست نہیں با۔
 آپ نے امامت سے تائب ہونے کے بعد بقیہ عمر تعلقاتِ ذمیوی کو چھوڑ کر
 روضہ حضرت موسیٰ رضا علیہ السلام پر محکف ہو کر بسر کی اور بزمانہ خلافتِ مقتدر باللہ ۲۶۱ھ میں رحلت فرمائی۔

آپ کا نسب جیسا کہ شجرہ نسب سے
 ظاہر ہے۔ سترہ واسطوں سے

حضرت ابوالمبارک بن سید فخر الدین صاحب

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ خلافتِ عباسیہ کے اختتام
 کا ہے۔ آپ کے دو فرزند تھے۔ جن میں سید فتح اللہ صاحب ممتاز تھے۔

آپ کی وجہ تسمیہ اس طرح مذکور ہے کہ آپ کے والد
 ابوالمبارک حاکم سامرہ کی طرف سے عہدہ امیر الحرب

سید فتح اللہ صاحب

پر مامور تھے۔ ایک معرکہ میں آپ مصروفِ جہاد تھے اور فتح یاب ہو کر واپس تشریف لائے
 رہے تھے کہ فرزندِ مبارک جن کی تولید کی خبر پہنچی۔ آپ نے اس فتح کی یادگار میں آپ کا نام فتح اللہ رکھا۔

گو آپ کے خاندان میں بہت سی جاگیریں عطا شدہ تھیں۔ لیکن ان کا بیشتر
 حصہ فقر و مساکین پر صرف ہوتا تھا۔ خود سید مبارک اعلیٰ عہدے پر ممتاز تھے۔ اس
 لیے انہوں نے آپ کی تعلیم کا انتظام بغداد سے قابلِ معلم منگا کر کیا۔ اور آپ نے علومِ جنو

سے بغداد کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ (ناخر)

میں کمال حاصل کرنے کے علاوہ نیزہ بازی۔ تیغ زنی، تیراندازی کی مشق بھی کی۔ اور ماہر فن حرب ہو گئے۔ آپ کے والد نے آپ کو اپنی جگہ امیر الحرب مقرر کر دیا اور خود اسی سال ۹۸۳ھ میں وفات پائی۔

آپ حج کو تشریف لے گئے۔ احرام اٹارنے اور بال تشریف لانے کے وقت آپ نے ایک درویش طریقہ مداریہ کو دیکھا کہ اس نے ہر دو سنتوں کی پیروی نہ کی۔ علمائے وقت نے آپ کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا اور باہر نکال دیا۔ آپ اس درویش کو اپنے ہاں سے کھانا بھجاتے رہے اور خود بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ایک روز جب آپ اس درویش کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس نے کہا کہ:

» بخانه شماند زند و بلند پیدا شده است۔ مبارک باشد چوں بہ خانہ روی نامش
 « دانیال » بنہ۔ صاحب فضل و برکت خواهد شد۔»

آپ نے گھر پہنچ کر بموجب فرمان درویش اپنے صاحبزادہ کا نام دانیال رکھا۔ آپ نے ۹۲۹ھ میں جبکہ دانیال خورد سال تھا۔ رحلت فرمائی۔



حضرت دانیال

مورث اعلیٰ مکان شریف

والد کے قبل از وقت وفات اور وراثت کے تنازعات کی وجہ سے حضرت دانیال زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے آپ نے بغرض حصول تعلیم اپنے گھر سامرہ کو چھوڑ دیا۔ اور بغداد پہنچ کر تعلیم حاصل کرنے کا قصد کیا۔ جوان دنوں علوم و فنون کا مرکز تھا آپ بغداد شریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں درویشوں کے ایک گروہ سے ملاقات ہوئی۔ جو بارادہ حج خانہ کعبہ کو جا رہے تھے۔ آپ کے معصوم دل پر ان کی معیت کا اثر ہوا اور آپ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور کئی ایکس حج بیت اللہ شریف کیے پھر مدینہ شریف پہنچ کر رات دن مصروف عبادت رہنے لگے اور وہیں اقامت اختیار کی۔

ایک دفعہ آپ نے مدینہ منورہ سے قصد وطن فرمایا۔ رات کو روضہ حضور پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں جب در حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا تو مکاشفہ میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا۔ اپنا منہ کھولا۔ جب میں نے منہ کھولا تو حضور نے دو دانے انگور کے میرے منہ میں اپنے دست مبارک سے ڈالے اور فرمایا کہ یہ خزینہ علوم عرفان الہی کا ہے جو تمہارے سینہ میں امانت رکھا گیا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ پھوٹے پھلے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے سینے سے دو نورانی شمعیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اور ان ہر دو شمعوں سے کئی اور شمعیں روشن ہو کر فضائے عالم کو منور کر رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے ہر دو بازو جناح (پر) ہو گئے ہیں اور مجھے طاقت پرداز حاصل ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ مجھے فرما رہے ہیں۔ » دانیال! تم اپنے وطن جانے کا ارادہ کر رہے

ہو۔ حالانکہ قسام مطلق نے تمہارا آبِ خور و وطن ہندوستان مقرر کیا تو اسے۔
 صبح میری طبیعت بہت متفکر تھی۔ رات کا سارا ماجرا ایک صاحبِ حال
 سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا۔ تمہارا آب و دانہ ہندوستان میں ہے۔ اور آپ
 کی نسل سے دو بہت بڑے بزرگ پیدا ہوں گے۔ جو ایک زمانہ کو نورِ مذہب سے منور
 کر دیں گے۔ ان کا ظہور کسی خاص وقت میں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ملک بہت دور
 ہے۔ سفر صعوبت انگیز اور زادِ راہ پاس نہیں۔ انہوں نے فرمایا جو خدا تعالیٰ کو کرنا
 منظور ہوتا ہے۔ اس کے اسباب خود بخود مہیا ہو جاتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں تمہارے
 سب مرحلے طے ہو جاویں گے۔ میں تم کو سمجھا دیتا ہوں۔ جب تم بندرگاہِ سورت
 پر جہاز سے اترو تو پہلے اجمیر شریف جانا۔ اور کچھ عرصہ ولی اللہ حضرت معین الدین
 اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پر قیام کرنا۔ کیونکہ آپ سلطان الہند ہیں۔ اور ہندوستان
 کی تمام برکات آپ کے قبضہ میں ہیں۔ پھر جب وہاں سے ارشاد ہو اور اجازت
 طے تو اپنے خاندان کے بزرگ سید بدیع الدین شاہ مدار کے پاس جانا اور ان کی
 خدمت میں اپنا حال عرض کرنا۔ جو کچھ وہ فرما دیں گے اس پر عمل کرنا۔
 الغرض میں نے ہندوستان جانے کا قصد مصمم کر لیا۔ اور خدا تعالیٰ کا نام
 لے کر چل پڑا۔ تائیدِ ایزدی شامل حال تھی۔ میں نے اس بزرگ کے فرمان کے مطابق
 جہان سے بندرگاہِ سورت پر اتر کر اجمیر شریف کی راہ لی۔ اور وہاں پہنچ کر قیام کیا۔ کچھ
 عرصہ گزرنے کے بعد میں نے ایک درویش سے اپنا ماجرا سے سفر بیان کیا۔ انہوں نے
 کہا کہ استخارہ کر کے اس کے متعلق جواب دوں گا۔ صبح جب میں ان سے ملا تو انہوں
 نے فرمایا کہ :

”تم سیدھے مکن پور چلے جاؤ اس وقت قیوم زماں حضرت بدیع الدین شاہ
 مدار ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال بیان کرو۔ تمہاری عقدہ کشائی
 وہاں ہو سکے گی۔ جو حکم وہاں سے ملے اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔“
 میں ان کے فرمان کے مطابق مکن پور پہنچا اور عرضِ حال کے لیے حضرت کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ مگر دیکھا تو آپ حالتِ سکر میں تھے۔ اور ایسی حالت میں آپ کے ہر ہن سے خون کے فوارے اُبل رہے ہیں۔ مجبوراً کچھ دن وہاں قیام کرنا پڑا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو میں نے اپنا حال مفصل آپ سے بیان کیا اور عرض کیا کہ میں مدت سے آوارہ وشت غربت ہوں اور مارا مارا پھرتا ہوں۔ آپ نے مہربانی فرما کر پہلے مجھے معیت کیا۔ پھر فرمایا کہ:

” تمہارا اس ملک میں آنا خالی از حکمت نہیں ہے۔ اس میں کئی مصلحتیں ہیں اور اب تمہارا سفر عنقریب ختم ہونے والا ہے اور جس جگہ خدا تعالیٰ کو آپ کا پہنچانا منظور ہے۔ آپ وہاں پہنچ جاویں گے۔ جس بزرگ نے آپ کو عرب سے ہندوستان روانہ کیا ہے۔ اس نے بلاؤں کو نہیں بھیجا بلکہ حکمِ الہی اسی طرح تھا۔ آپ کو جو دانہ انگوڑ کھلائے گئے ہیں۔ اُس کی تعمیر یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد آپ کی نسل سے دو مردانِ خدا پیدا ہوں گے۔ جن کی برکات و الوار سے زمانہ روشن ہو جاوے گا۔ اور ان کی شمع ہدایت سے اور کئی لوگ فیض یاب ہو کر روشن ہوں گے۔ اور ان کی برکت سے ظلمتِ کفر و شرک کا نور ہو جاوے گی۔“

باز و جناح ہونے سے اشارہ سیاحت کا تھا۔ پھر آپ نے

مختصر کیفیتِ سفر حضرت بدیع الدین شاہ مدارِ صاب
رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا قسمِ مکانِ شریف

کچھ مختصر اپنے حالاتِ سفر بیان فرمائے تاکہ میرے دل کو تسکین ہو۔ فرمایا:

” میں حلب میں تھا جب مجھے مخدومِ اعلیٰ سے خرقہِ خلافت عطا ہوا اور حکم ہوا کہ ہندوستان میں ایسی جگہ جا کر اشاعتِ اسلام کروں جہاں اسلام کا نام و نشان نہ ہو اور جو جگہ ظلمِ دستم سے معمور اور اسلام کی ہر قسم کی خوبیوں سے بے بہرہ ہو۔“

حسب الارشاد میں بعزمِ ہندوستان جہاز پر سوار ہوا تو راستے میں میں نے

اہل جہاز کو نصیحت کی مگر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے انہوں نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ خدا کو اسی طرح منظور تھا۔ میں زندہ و سلامت کنارہ پر پہنچ گیا اور سرزمین ہندوستان پر پہنچ کر میں نے بے شمار کوستان، ریگستان اور بیابان طے کیے۔ آخر علاقہ پنجاب میں ایک ایسی جگہ پہنچا جس کی نظیر دنیا بھر میں مشکل ملے گی۔

یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی اور یہاں ایک شہر آباد تھا۔ نسل کیرواں سے یہاں ایک راجہ چتر دہاری حاکم تھا۔ اور یہ شہر اس کی ریاست کا پایہ تخت تھا۔ یہ راجہ نہایت ظالم سنگدل اور متعصب تھا۔ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اس کی نسبت مشہور ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاں پاتا قتل کرتا اور ان کا خون اپنے چتر برنگا کر تخت اکرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس شہر کا نام رت چتر یا رت چتر مشہور ہو گیا تھا اور بگڑ کر رت چتر کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ وہاں کسی مسلمان کا گزرنہ ہو سکتا تھا۔

حضرت شاہ مدار صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے فرمان خدا کی تعمیل میں وہیں رہنا پڑا۔ میں وہاں رہتا تھا اور اکثر وقت میرا حالت مستی و غلبہ سکر میں بسر ہوتا تھا مجھے نہ کسی نے مسلمان سمجھا اور نہ ہی معترض ہوا۔ جب راجہ کا ظلم مسلمانوں کے سوا باقی رعایا پر بھی بڑھ گیا۔ تو مجھے عرصہ کے بعد ایک فقیر صورت شخص ملا اور اس نے بیان کیا کہ اس ظالم راجہ کی تباہی کا وقت آ گیا ہے اور عنقریب اس پر غضب الہی نازل ہونے والا ہے۔ آپ اس شہر سے چلے جاویں جب تک آپ یہاں نہیں غدا ب الہی نازل نہیں ہوگا۔ حکم الہی اسی طرح ہے۔ میں اس بزرگ کے فرمان کے مطابق وہاں سے چلا آیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شہر غرق ہو گیا۔ (یا دریا میں بڑو ہو گیا۔)

پھر فرمایا کہ آپ دہلی چلے جاؤ اور وہاں سے لاہور پہنچ کر حضرت داتا گنج بخش کے مزار مبارک کے اعتکاف کرنا۔ اسے جس طرح ارشاد ہو تعمیل کرنا۔ آپ کو اس غرق شدہ شہر کی آبادی دوبارہ کرنا ہے اس لیے آپ نکاح بھی کریں۔

دانیال صاحب نے عرض کیا کہ میرے قوائے جسمانی بہت کمزور ہو گئے ہیں اور میں اب نکاح کے لائق نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس غرق شدہ ویرانہ میں جہاں میں

نے چلہ کشی اور عبادت الہی کی ہے۔ ایک نان پختہ تم کو ملے گی اس کے کھانے سے آپ کو تقویت جسمانی پورے طور پر حاصل ہو جائے گی۔
 میں آپ کے فرمان کے مطابق براستہ دہلی لاہور پہنچا۔ اور حضرت داماد گنج بخش کے مزار مبارک پر کچھ عرصہ رہا۔ ایک دن ایک درویش صاحب حال سے میں نے اپنے واقعات بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لاہور سے جانب مشرق دریائے راوی کے کنارے سفر کرو۔ کیفیت تم کو خود معلوم ہو جائے گی۔ دریائے راوی کے کنارے ایک ٹیلہ پر جوگیوں کا مندر ملے گا۔ وہی جگہ قضا و قدر نے آپ کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔
 کچھ عرصہ بعد وہ جگہ مل گئی جس کے لیے اس قدر صعوبات سفر برداشت کی تھیں۔ یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے مسر اور دلکشا معلوم ہوتی تھی۔ ٹیلہ اونچا تھا۔ اور دریائے راوی کا پانی اس کے نیچے بہ رہا تھا۔

یہ روایت گو تحریری کہیں نہیں ملی مگر عوام میں بہت مشہور ہے کہ جب حضرت داماد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اقامت اختیار کی تو جوگیوں نے مخالفت کی اور اپنا دیرینہ قبضہ بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا میرا قبضہ تم سے زیادہ دیرینہ ہے۔ چنانچہ ان جوگیوں کے رو برد ایک جگہ کھود کر جو آپ کو کشف سے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ نان پختہ جس کا ذکر حضرت شاہ مدار صاحب نے فرمایا تھا نکالی۔ جس پر جوگی محبوب ہو کر وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اپنا استھان چکھوڑ میں جا قائم کیا۔

حضرت کی تشریف آوری ۱۲۱۵ھ مطابق ۱۸۰۰ء میں ہوئی۔ جبکہ سید خضر خاں ولد سید سلیمان خاں دہلی میں حکمران تھا۔

اس روٹی کے کھانے سے آپ کی صحت جسمانی درست ہو گئی اور جوانی پھر عود کر آئی۔ اس واقعہ کو ایک قلمی کتاب جس کا ایک حصہ کرم خورہ ہے۔ سید فضل کریم صاحب خلیفہ سید شاہ محمد مرحوم نے یوں بیان فرمایا ہے۔

نسل ایں احقرز اولاد حسین بہت باصحت زسوائے والدین
 از امامان نسل تا حضرت تھے میرسد باقدوہ مرتنے

پیشیانِ جملہ احب دین
سید فتح اللہ کز احب ادب ما
بد نہ فرزند سے بجانہ آں سعید
خواستہ ہمت از زمرہ اولیاء
بہر فرزند سے بگیرد تا دعایا
آں بدیع الدین حلبی شاہ مدار
پیش آں عارف چو کرد او التجا
داد چوں فرزند اورا ذوالجلال
چوں سن تمیز فرزندش رسید
ہست در بندستان جائے قیام
بعد از دے آتشے افر و ختم
بعد از ان مانے در آں انداختم
ہست آں مانے در آں آتش منور
رد تو ان مانے از آں آتش برار
جسم پیرت آں زماں گوردیوان
بعد از ویج ز اولاد سے بدیاں

اس نظم سے اس قدر شبہ ضرور ہوتا ہے کہ حضرت بدیع الدین شاہ مدار نے زہر پھتر
کی طرف آپ کو عرب سے روانہ کیا یا مکن پور سے۔ مگر اصل واقعہ کی تصدیق ضرور
ہوتی ہے۔

الغرض حضرت دانیال نے کچھ عرصہ یہاں قیام فرمایا اور پھر اپنے پیرو مرشد کی زیارت
کے حصول کے لیے بارادہ مکن پور دہلی پہنچے۔ دہلی سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ مدار
صاحب کا انتقال ۸۳۷ھ میں ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نے مکن پور جانے کا ارادہ
ملٹوی کر دیا۔ قیام دہلی کے زمانہ میں ایک نامی بزرگ حاجی سید سعید سے آپ کا تعارف

ہوا۔ ان کے ہاں کچھ عرصہ مہمان رہے۔ سید مسعود کے ہاں اولاد نہ رہی تھی۔ ایک لڑکی ان کی بالغ تھی۔ حضرت دانیال کو خوش حصال اور نیک دیکھ کر اپنی لڑکی کا نکاح حضرت سے کر دیا۔ آپ عرصہ تک حاجی سید مسعود کے ہاں بطور خانہ داماد رہے۔ حضرت دانیال کے ہاں تین لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام بالترتیب سید غفور، سید ظہور، سید خواجہ تھا۔ آپ کو پھر رتھ چھتر جانے کا شوق ہوا۔ اور یہ شوق کیا تھا۔ الہامی حکم کی تعمیل بھی۔

دونوں بڑے صاحبزادے اپنی والدہ کے ہاں وہلی میں رہے اور آپ سید خواجہ کو لے کر رتھ چھتر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں اب مکان شریف آباد ہے۔ تو وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ جنگل بیابان تھا۔ یا اثر دریا کی وجہ سے ایک جھیل سی بن گئی تھی۔ مشرق کی طرف کلانور اور شمال مغرب کی طرف نارووال آباد تھا۔ قرب دجوار کے لوگ اپنے مویشی چرانے کے لیے وہاں لے آتے تھے۔ جو لوگ زیادہ عرصہ مویشیوں کو یہاں رکھتے وہ کبھی کبھی جنس بھی کاشت کر لیتے تھے۔ طغیانی کے دنوں میں اکثر واپس چلے جاتے اور باقی وقت وہیں بسر کرتے۔

حضرت نے اسی ٹیلہ پر جہاں پہلے کچھ عرصہ قیام کر چکے تھے۔ ایک جھونپڑی بنا کر رہنا اختیار کیا۔ ان دنوں میں اتفاقاً پھیر و کالس جس کے نام پر موضع پھیر و وال مشہور ہے کے مویشیوں میں دبانو دار ہوئی اور مویشی مرنے لگے۔ پھیر و نے حضرت سے دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ نے پانی دم کر کے دیا۔ جس سے پھیر و کے مال مویشی وبل سے محفوظ ہو گئے۔ پھر تو جس کا کوئی مویشی بیمار ہوتا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ پھیر و نے جو حضرت کا بہت معتقد ہو چکا تھا۔ اجازت لے کر وہیں رہنا شروع کر دیا۔ اور اپنی رہائش کے لیے وہیں چھپر و غیرہ بنا لیا۔

پھیر و کے ایک رشتہ دار سھو کی بیوی جو علاقہ چنابہ کی تھی بیمار ہو گئی۔ لوگ اسے آسیب زدہ سمجھتے تھے۔ حضرت کی دعا سے خدا تعالیٰ نے اس کو شفا بخشی۔ جس سے پھیر و کے رشتہ دار بالخصوص اور پہاڑی علاقے کے لوگ بالعموم آپ کے معتقد

ہو گئے۔

ان ہی ایام میں آپ کی شہرت سن کر چوہدری بدو جس کے نام پر موضع بدو علی آباد ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ دعا فرمادیں۔ حضرت کی دعا سے وہ صاحب اولاد ہو گیا۔ عرض اس طرح جب آپ کے فیض عام کی شہرت ہوئی تو لوگ جوق در جوق آنے لگے اور لوگوں کا مجمع لگا رہتا۔ گوجراور زمیندار اپنے مولشی بھی وہاں لے آتے اور اپنے مال میں حضرت کا کچھ حصہ مقرر کر دیا اور اکثر لوگوں نے وہاں مکان بنا کر سکونت اختیار کر لی۔ اور اس طرح یہ ویرانہ پھر حضرت کی برکت سے آباد ہو گیا۔ اس آبادی کا نام وہی رہا پھر ہی رہا۔ اس وقت لوگوں نے سایہ کے لیے بڑا درپیل کے درخت لگائے جو قریباً چار صد برس تک ہے۔ چنانچہ جو درخت پیل بھیرو کانس کی عورت نے اپنے گھر لگایا تھا۔ وہ پری دالایا پریاں والہ پیل کے نام سے مشہور تھا۔ ایک پیل کا درخت جو خشک ہو گیا تھا حضرت سید صادق علی شاہ کے عہد میں کاٹا گیا۔ اور ایک بوٹر کے درخت کا کچھ حصہ پرانے بوٹر کے نام سے اب تک مشہور اور موجود ہے۔ دفاتر سے کچھ عرصہ پہلے آپ پھر دہلی گئے۔ ممکن ہے اس سفر سے آپ کی عرض اپنے اہل و عیال کو یہاں لا کر آباد کرنے کی ہو یا صرف ان کو دیکھنے کی اور یہ بھی ممکن ہے کہ سید خواجہ اس آخری سفر میں آپ کے ساتھ آئے ہوں۔ کیونکہ دونوں بڑے صاحبزادے اور ان کی والدہ دہلی ہی میں اپنے نانا کے وارث ہوئے۔

پیر لوجہ جٹ زندھاوا مورث اعلیٰ دہر کوٹ وغیرہ

ابتدائی سفر میں جب آپ دہلی سے تشریف لارہے تھے تو آپ کو موضع دھرموں چک متصل رام دیوالی میں شام ہو گئی اور ایک شخص مسمی تہراج نے جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی آپ کو درویش صورت سمجھ کر اپنے مکان پر لے جا کر بہت

خدمت و تواضع کی اور اپنے حالاتِ لاولدی کا اظہار کیا۔ حضرت نے بدرگاہِ مجیب^{الذی} التجا کی کہ رب العالمین! جس طرح اس شخص نے میری لکڑی خدمت کی ہے۔ تو بھی اپنے فضل و کرم سے اسے ثمرہٴ اولاد سے بہرہ ور فرما۔ آپ کو اس وعدے نیم شبی کی قبولیت کا یقین ہو گیا، تو صبح روانگی کے وقت آپ نے فرمایا دیکھو تہراج اللہ تعالیٰ آپ کو دو فرزند عطا فرمائے گا۔ ایک صحیح سالم دوسرا گوش بریدہ (بوجہ) صحیح سالم تمہارا ہوگا۔ گوش بریدہ ہمیں دے دینا۔ تہراج نے کمال خوشی سے تعمیل حکم کا وعدہ کیا۔ یہ واقعہ غالباً حضرت کے متاہل ہونے سے پہلے کا ہے۔ آپ کی بشارت کے مطابق دونوں لڑکے تو ام پیدا ہوئے اور تہراج نے وعدہ کے مطابق ایک لڑکا آپ کے حوالے کر دیا۔

یہ گوش بریدہ تہراج کا لڑکا بعد میں پیر بوجہ کے نام سے مشہور ہوا۔

اسی موقع پر ایک اور بہت مشہور واقعہ زبان زدِ خاص و عام ہے۔ جب پھر حضرت تہراج کے پاس پہنچے تو تہراج کی بیوی نے آزمائش کیے یا محبتِ مادری کی وجہ سے غدر کیا اور گوش بریدہ لڑکے کو چھپا کر کہا کہ حضرت میرے ہاں صرف ایک بچہ ہی ہوا ہے جس کے کان موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا لڑکا تو ہو گیا ہے ہمارا نہیں ہوا نہ سہی۔ آپ رخصت ہو کر باہر نکلے تو گوش بریدہ لڑکا دست اور قے آنے سے نیم حال ہو گیا۔ جب اس کی موت کا یقین ہو گیا تو میاں بیوی دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے اور معذرت کر کے واپس لائے اور لڑکا گوش بریدہ آپ کے حوالے کیا۔ بہر حال تہراج نے جب لڑکا لے کر حضرت کو رخصت کرنا چاہا تو دست بستہ عرض کی کہ حضرت یہ جاٹ کا لڑکا ہے اس کو دھوئیں وار فقیر نہ بنا دینا۔

حضرت نے کمال شفقت سے اس لڑکے کی پرورش کی اور تعلیم دلائی۔ اور علوم باطنی کی طرف متوجہ کیا۔ جب یہ لڑکا (پیر بوجہ) علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ ہو گیا تو حضرت کو اس کے نکاح کا فکر ہوا۔ کوشش کی گئی۔

پھر دوائس کو بلا کر بھی آپ نے کہا۔ اس نے عرض کی کہ اگر میرے گھر لڑکی ہوتی تو میں کبھی غدر نہ کرتا۔ پھر آپ نے چوہدری بدو مورث اعلیٰ بدو ملی کو بلا کر ارشاد فرمایا۔ چوہدری بدو نے آپ کے فرمان کی تعمیل میں اپنی لڑکی پیر لوجہ سے منسوب کر دی۔ حضرت نے لقب فرزندگی سے سرفراز فرما کر پیر لوجہ کے نام سے اس کو مشہور کر دیا۔ شادی ہو گئی اور حضرت کی حیات میں پیر لوجہ صاحب اولاد ہو گیا۔ حضرت نے پیر لوجہ سے کہا کہ تم اپنا آبائی پیشہ اختیار کرو۔ اردگرد کی زمین قابل کاشت سے اس کو آباد کرو۔ پیر لوجہ کے ہاں چار لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک بچپن میں فوت ہو گیا۔ دو لڑکے سدھاری و سینما بڑے ہو کر دریائے چناب کے پار جا کر آباد ہو گئے اور مسمیٰ بکھاری اپنے باپ کے پاس رہا۔ اور دونوں باپ بٹوں نے اردگرد کی اراضی کو مزروعہ کیا۔ حضرت کو تہراج کے وہ الفاظ یاد تھے۔ جب اس نے اپنے لڑکے کو حضرت کے حوالے کیا تھا کہ حضرت یہ جاٹ کا لڑکا ہے اس کو دھوئیں دار فقیر نہ بنا دینا۔ آپ کی دُعا سے پیر لوجہ کی نسل سے صرف بکھاری کی اولاد سے قوم جاٹ رندھاوا سے مکان شریف کے اردگرد بارہ گاؤں آباد ہیں مثلاً شہزادہ، منصور، مکان شریف، ڈالہ، موہو والی، دھرم کوٹ، جن میں سے دھرم کوٹ رندھاوا مشہور قصبہ ہے اور یہ سب لوگ پیر لوجہ کی اولاد ہیں اور ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ ۹ صفر ۹۵۸ھ مطابق ۱۴۹۳ء بھارت تپ دی پیر لوجہ نے وفات پائی۔ پیر لوجہ کی تاریخ وفات کسی نے خوب کہی ہے۔ اور اس میں اختصار کے ساتھ واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

تاریخ وفات پیر لوجہ جب رندھاوا

پیر لوجہ پورہ مقال شد دعائے دانیال
 کرد مسلم بعد از آل آموخت احکام جلال
 از شریعت ساخت نختہ در طریقت کرد حیت
 تا گوید بعد از آوردہ ماند در ضلال

حضرت دانیال صاحب کے جانبِ شمال پر لوجہ مدفون ہیں۔ پہلے چھوٹی سی قبر تھی، اعلیٰ حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں سات فٹ اونچا دس مربع فٹ چوترا بنا کر اوپر قبر کا تعویذ بنوایا گیا جو کلر کی وجہ سے پھر خراب ہو گیا۔ ۱۹۲۹ء میں میرزا بہ صاحب نے اب از سر نو مرمت کرائی ہے۔ الغرض حضرت دانیال صاحب کی دعا سے پیر لوجہ کو دنیا و دین دونوں نصیب ہوئے۔ حضرت دانیال کی زندگی میں زمر چھتر آباد ہو گیا تھا اور خلقت کا رجوع عام ہو گیا تھا۔ سید ابوالمعالی کی زندگی تک مرجع انام بنا رہا۔

حضرت نے اپنی زندگی میں اپنے فرزند سید خواجہ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا اور ۹ ربیع الثانی بروز چہار شنبہ ۱۲۹۶ھ مطابق ۱۹۷۹ء میں جبکہ دہلی میں بہلول لودھی کی حکومت تھی داعی اجل کو لبیک کہا۔

آپ مورث اعلیٰ مکان شریف ہیں۔ سامرہ سے ہجرت کر کے آپ نے زمر چھتر کو آباد کیا۔ آپ کی زندگی اہل بصیرت کے لیے سبق آموز ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ذیوی فلاح جائداد و آرام سب قربان کر دیا۔ امر الہی کی تعمیل میں صعوبات سفر کا برداشت کرنا۔ غم بالجزم، توکل علی اللہ فرمانبرداری، ہجرت فی سبیل اللہ آپ کے کمال کا پتہ دے رہے ہیں۔

آپ خوش شکل، وجہہ و سفید رنگ بلند قامت تھے۔ سر کے بال **حلیہ** لیے رکھتے تھے۔ زبان عربی میں اعلیٰ دستگاہ رکھتے تھے۔ آپ کے اخلاق پسندیدہ تھے۔

جس حجرہ میں آپ قیام فرماتے تھے بطریق سنت اسی میں **مزار مبارک** مدفون ہوئے، جو عید گاہ کے جنوب مغربی کونہ پر واقع ہے۔ آپ کی خانقاہ کی چار دیواری سید فضل کریم صاحب جن کی تصنیف شدہ فلمی کتاب کے چند اشعار درج کیے گئے ہیں نے تعمیر کرائی۔ پھر ۱۲۴۲ھ میں خانقاہ کی مرمت ہوئی۔ ۱۲۹۸ء میں میرزا بہ محمد کے والد بزرگوار میر حمزہ صاحب نے چار دیواری

بنوائی پھر خراب ہونے پر ۱۸۲۹ء میں بہاؤ پوہ میر محمد زاہد صاحب نے مرمت کرائی
جواب تک موجود ہے۔ قطعہ تاریخ وفات از سید فضل کریم صاحب ہے

حضرت دانیال شاہ مرن | شد مکین مٹا خلد بریں
بے کم دکا گفت ہا غیب | سال تحریل اوست خلد بریں

سید خواجہ حضرت دانیال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سید خواجہ
جانشین ہوئے اور سلسلہ بدستور جاری رہا۔ ۲۷ ذوالحجہ
۱۹۱۲ء مطابق ۱۵۱۶ھ کو آپ نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ اور آپ
اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہوئے۔

سید ابوالمعالی جانشین ہوئے۔ آپ نے ۱۸۰۲ھ میں رتڑ چھڑ کے قریب
پیر بوجہ کی اولاد کے اشتراک سے ایک گاؤں سلیم پور آباد کیا۔ آپ کی اولاد کچھ عرصہ
یہیں آباد رہی مگر ان دنوں چونکہ ملک میں بد نظمی تھی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا ایسے
کئی دیہات جن کے گرد فصیل حفاظت کا انتظام نہ تھا برباد کر دیئے جلتے سلیم پور
بھی اسی بادشاہ گردی کی نذر ہو گیا۔ اور سلیم پور کا نشان سولے چابچہ کی والا کے
جواب تک کے والی کھوئی کے نام سے موسوم ہے اور کچھ باقی نہیں ہے۔
ان حادثات کی وجہ سے پیر بوجہ کی اولاد دھرم کوٹ میں جا کر آباد ہوئی۔ جہاں
حفاظت کا انتظام تھا۔ حضرت ابوالمعالی بھی دھرم کوٹ تشریف لے گئے۔ ۱۰۵۱ھ
مطابق ۱۵۸۵ء آپ نے وفات پائی۔ ان دنوں دھرم کوٹ اور رتڑ چھڑ کے
درمیان دریا کا ایک نالہ طغیانی پر تھا۔ اس لیے مشکل جنازہ لایا گیا اور اپنے باپ کے
پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔

سید ابوالمعالی نے چار فرزند اپنی یادگار چھوڑے۔ سید عارف، سید ترضی
سید ملاحی، سید زاہد چاروں بھائیوں میں کچھ وراثت کے تنازعات پیدا ہو گئے اور
سب نے سید عارف کو جواب دے دیا۔ سید عارف تلاش معاش میں نکلے اور رات

کو اپنے بزرگوں کے مزارات پر فاتح خوانی میں مشغول ہوئے اور اپنی حالت عرض کی۔
صبح چلتے وقت آپ کو ایک گڑھے سے دھینچا گیا۔ جس کے باعث آپ کو معاش
کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو فوت ہوئے اور حاجی دانیال صاحب
مرحوم کے قدموں میں آپ کو دفن کیا گیا۔

سید عارف کے پانچ لڑکے دو بیویوں سے تھے۔ جان علی، صادق علی ایک
بیوی سے اور شاہ محمد سید صالح دوسری بیوی سے۔ ان پانچوں بھائیوں میں بھی
تنازعات پیدا ہو گئے اور یہاں تک بڑھے کہ ایک دفعہ دریائے بیاس کے کنارے
پر سید شاہ محمد کے سوتیلے بھائی ان کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ ناگاہ شتر بانوں کا
ایک قافلہ آنکلا اور آپ کو رہائی نصیب ہوئی۔ اسی ندامت میں جان علی اور صادق علی
موضع جمیلہ علاقہ کٹھور میں اپنے نہال کے ہاں چلے گئے۔ ان کی اولاد اب تک
اسی جگہ ہے۔

چراغے راکہ ایند بر فرورد ۱ ہراں کس آف زندریشش بسوزد

فخر خاندان حضرت سید شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مورث ثانی مکان شریف

حاجی دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے ۱۹۰ سال بعد ۱۰۸۶ھ مطابق ۱۶۶۸ء میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ زمانہ حضرت اورنگ زیب عالمگیر کا تھا۔ آپ کا نسب پانچ واسطوں سے حضرت دانیال مرحوم سے ملتا ہے۔ آپ کو دینی اور دنیوی عروج حاصل ہوا۔ آپ رتھر چھترے کے مورث ثانی یا موجودہ آبادی کے مورث اعلیٰ ہیں۔

بچپن میں آپ کی زبان میں لکنت تھی اور حافظہ بھی ایسا اچھا نہ تھا۔ ایام تعلیم میں ایسے طلباء کی جو حالت ہوتی ہے وہی آپ کی تھی۔ چنانچہ ایک دن آموختہ یاد نہ ہونے اور صاف نہ سنا سکنے کے باعث استاد نے زبرد تو بیخ کی۔ اتفاقاً اسی دن گھر میں والد نے اسی تصور میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ اور زور و کوب کی۔ آپ کا معصوم دل اس دو طرفہ سہز نش سے اچاٹ ہو گیا اور دریا میں ڈوب کر جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دریائے راوی قریب تھا۔ آپ کنارہ دریا پر عالم تنہائی میں پہنچ کر انتہائی مایوسی کے ساتھ کودنے پر آمادہ ہوئے۔ عین اسی وقت کسی نے پیچھے سے لٹکار کر کہا۔ اولڑکے کیا کرتا ہے۔ آپ نے پھر کر دیکھا تو ایک بزرگ صورت شخص نے فرشتہ رحمت ہو کر آپ کو بکڑ لیا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ آپ نے عرض کیا کہ مدرسہ میں استاد اور گھر میں ماں باپ مارتے ہیں۔ زبان میری نہیں چلتی۔ سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے اس زندگی پر موت کو ترجیح دے کر دریا میں ڈوب کر چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ آپ کے بچپن، معصومیت اور مایوسانہ صاف گوئی سے بہت متاثر ہوئے۔ آبدیدہ ہو کر آپ کو سینے سے لگا لیا اور بڑی شفقت کے ساتھ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈال

دیا اور تسلی و تشفی سے گھر کی طرف واپس کر کے خود تشریف لے گئے اور ایسے گئے کہ اُن کے جانے کا کچھ پتہ چلا اور نہ پھر کبھی وہ نظر آئے۔
اس واقعہ کے بعد آپ کی لکنت جاتی رہی اور علوم ظاہری و باطنی کے دروازے آپ پر کھل گئے۔ جب آپ کے والد سید عارف مرحوم نے سنہ ۱۱۰۳ھ میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً ۱۶ سال کی تھی۔

پیلے ذکر ہو چکا ہے کہ آپ پانچ بھائی تھے اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قتل کی سازش سے جو بھائیوں نے کی تھی بچا لیا تھا۔ پھر آپ کو بھی اسی طرح بھائیوں پر ہر قسم کی فضیلت عطا ہوئی۔ چنانچہ آپ نے سنہ ۱۱۰۹ھ میں جبکہ آپ کی عمر تخمیناً ۲۲ سال کی تھی زمین خریدنی شروع کی۔ ابتدا میں محمد پور، ننگل رائے چند، چند سو جا اور چند منج خرید کیے۔ پھر موضع روپو معین معروف روپو والی کا نصف حصہ گو بند رام قانون گو سے خرید کیا۔ کچھ اراضی مختلف مالکان راجہ، چند سنگھ، میگھا، سدھا، لدھا، مسات ہندی وغیرہ سے خرید کی۔

ذنیوی وجاہت، نیک نیتی اور عام رسوخ کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک ہو گئی۔ چنانچہ ۲۷ ربیع الاول ۱۱۵۲ھ کو محمد شاہ بادشاہ وقت کی طرف سے ایک فرمان آپ کے نام پہنچا کہ مبلغ ۴۵۲۵ روپیہ معاملہ پر گنہ کلانور کا آپ وصول کر کے داخل خزانہ کریں اور اس علاقہ کے ویران دیہات کو آباد کرنے کی سند آپ کو عطا ہوئی۔ چنانچہ ۱۳ شوال کو ایک فرمان نواب سعید الدین خاں صاحب کی طرف سے موضع صدر پور پر گنہ کلانور کے جو عرصہ سے غیر آباد تھا آباد کرنے کا عطا ہوا۔

۱۱۹۵ھ بکرمی کو راجہ گنڈر چند والی نے چنبہ نے عیسے بگھ اراضی معہ چاہ پختہ موضع تتر چھتر اور ۳۰ گھاؤں اراضی واقعہ منصور آپ کو عطا کی جس کی نقل سند عطیہ اب تک موجود اور محفوظ ہے۔

الغرض آپ نے ایک معقول حیثیت پیدا کر لی اور حکام اور شاہی درباروں میں کافی رسوخ پیدا کر لیا۔ ۱۵ جٹیہ سمت ۱۸۱۵ میں آپ کو ایک سند بگار کی معافی

کی عطا ہوئی۔

احمد شاہ ابدالی سے ملاقات | احمد شاہ ابدالی کا گزر پنجاب میں ہوا آپ اس کو ملنے کے لیے گئے۔ اس ملاقات کا اتفاق

اس طرح ہوا کہ ایک دن آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ بانو نامی ایک طوائف کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر علاج معالجہ اور زندگی سے مایوس ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس پیشہ سے پہلے تو بہ کر اور اقرار کر کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں صحت بخشنے تو کسی کے ساتھ نکاح کر لے گی۔ طوائف نے آپ کا فرمان تسلیم کیا تو آپ نے دعا فرمائی۔ چنانچہ بانو نے صحت یاب ہو کر محمد خاں ساکن ڈیرہ افغاناں سے نکاح کر لیا جو فوجی عہدہ دار تھا۔

ایک دن بانو اپنا تمام قیمتی اسباب اور زیورات اور زر و نقد لے کر حاضر ہوئی۔ اور اس نے عرض کیا کہ میرے خاوند نے ایک خاص آدمی کے ہاتھ مجھے کھلا بھیجا ہے۔ کہ میں احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ ہوں۔ اس کا ارادہ نارووال ڈیرہ بابانا تک کے راستے آگے جانے کا ہے۔ لشکر اس کے ہمراہ ہے۔ مجھے شکریوں کی تاخت و تاراج کا اندیشہ ہے۔ ایسی حالت میں نہ مال و اسباب محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ جوان اور خوبصورت عورتوں کی عصمت۔ اس لیے تم مجھے اسباب حضرت صاحب (آپ) کی خدمت میں چلی جاؤ اور ان کی خدمت میں میری طرف سے بعد سلام یہ بھی عرض کر دینا کہ وہ بھی احتیاطاً اپنی حفاظت کا مناسب انتظام فرمائیوں۔ اس لیے حسب فرمان اپنے خاوند کے حاضر ہوئی ہوں۔

آپ نے بھی مصلحتاً کچھ ضروری اسباب کلانور قلعہ کبیر شگرہ میں بھجوا دیا۔ احمد شاہ نے نارووال، ڈیرہ بابانا تک پر قابض ہو کر جب نالہ کرن پر قیام کیا تو محمد خاں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ احمد شاہ ابدالی بڑا نیک طبیعت، پاک سیرت، پابند عہد اور شرفا کی عزت کرنے والا ہے۔ میں تعارف و کراؤں گا۔ اس لیے آپ ضرور اس سے ملیں۔ امید ہے کہ وہ آپ کی بہت عزت و

کرے گا۔ آپ نے کچھ مخالفین میں ایک عمدہ گھوڑا، ایک قیمتی دوشالہ، ایک تلوار بھی تھی ہمراہ لیے۔ اپنے صاحبزادے سید لطف کریم صاحب اور کچھ درویشوں سمیت بادشاہ کی فرودگاہ پر پہنچے۔

محمد خاں نے تعریفی الفاظ میں آپ کا مختصر ذکر کیا۔ احمد شاہ نے شرف باریابی بخشا۔ آپ کی ملاقات سے اور خصوصاً آپ کی تقریر سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور آپ کو اعزاز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد احمد شاہ سے امن حاصل کرنے کے معاوضہ میں توبہ دہری گورنمنٹ سنگھ اور مہر چند ساکن قیام پور دووے اور میاں ندہان سنگھ نے معاہدہ کر لیا اور سند لکھ دی کہ دو روپے فی گاؤں بطور نذرانہ آپ کو دیا کریں گے۔ یہ سند ۱۱۵۵ھ اور ۱۹ شعبان ۱۱۵۵ھ میں تحریر ہوئی۔

اس علاقہ پر سردار ندہان سنگھ کا قبضہ تھا۔ بعد ازاں دینا بیگ قابض ہو گیا اور ندہان سنگھ مغلوب ہو کر جان بچانے کی غرض سے لاہور چلا گیا۔ دینا بیگ سخت طبیعت تھا جب لوگ اس کے تشدد سے تنگ آ گئے تو سب نے مل کر آپ سے دینا بیگ کے متعلق شکایت کی اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ لاہور خط لکھ کر ندہان سنگھ کو بلوائیں ہم دینا بیگ کے مقابلہ میں اس کی امداد کریں گے۔

آپ عام لوگوں کی خواہش کو مسترد نہ کر سکے اور ان کے کہنے کے مطابق خط تحریر کر کے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ کسی شخص نے اس خط اور سارے واقعہ کی اطلاع دینا بیگ کو پہنچا دی جس پر راستہ ہی میں وہ آپ کا خط پکڑا گیا۔ ایچی گرفتار ہوا۔ خط پکڑے جانے پر آپ بھی مبعوث دس اور سرغنوں کے گرفتار کر کے قلعہ تپڑ میں پہنچائے گئے۔ آپ سے خط کے مندرجات کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے صحیح واقعہ بیان کر دیا کہ ان لوگوں کی شکایت پر ان کے مشورہ سے میں نے خط لکھا۔ اس پر آپ کو سزا بدنی بھی دی گئی اور قید میں بھی سختی کی گئی۔ چار ماہ تک آپ مقید رہے اور مقدمہ چلتا رہا آخر آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔

ایک دن بعد نماز صبح آپ مصروف تلاوت تھے کہ پہرہ دار کے رونے کی آواز آپ کے کان میں پہنچی جو آپ کی محبت سے متاثر ہو چکا تھا۔ آپ نے اس سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ جس پر اس نے عرض کیا کہ آپ کو ساتویں دن توپ سے اڑا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس خبر کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ آپ نے اس کو تسلی دی۔ ادھر یہ فیصلہ ہوا ادھر دینا بیگ کا لڑکا احمد بیگ سخت بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اطباء نے جواب دے دیا۔ شدت مرض کی وجہ سے تڑپ کر چار پائی سے نیچے گر پڑتا تھا۔ جب علاج سے فائدہ نہ ہوا بلکہ ع

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اُسی پہرہ دار نے جو آپ کے حالات سے واقف تھا داروغہ جبل کی معرفت آپ کے زندہ شب بیداری اور خدا ترسی کی تعریف دینا بیگ تک پہنچائی اور کہا کہ اگر احمد بیگ کو آپ کے پاس پہنچایا جائے تو اس کی صحت کی پوری امید ہے۔ دینا بیگ نے نہ مانا۔ آخر اس کی عورت تک اس واقعہ کی اطلاع پہنچی۔ مامتا بڑی بلا ہے۔ وہ خود آپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجبور ہو کر دینا بیگ نے آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا قتل کے لیے طلبی ہے۔ ملازم نے احمد بیگ کی بیماری کا سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دینا بیگ کو کہہ دو کہ جب تک وہ خود نہ آوے میں نہیں جاؤں گا۔ آخر طوعاً کرہاً وہ خود آپ کے پاس قید خانہ میں گیا اور عرض کیا کہ **وَإِن كَانِظْمِئِنَ الْحَيْضَةِ** آپ جیسے رویشوں کی صفت میں آیا ہے۔ رحم کا وقت ہے بہر حال آپ کو عزت و احترام کے ساتھ گھر لے گیا۔

آپ نے دیکھا کہ لڑکا تڑپ رہا ہے۔ وضو فرمایا۔ اپنا عصا ہاتھ میں لے کر مریض کی چار پائی کے گرد خط کھینچا۔ پھر تھوڑی دور ایک اور خط کھینچا جس پر کچھ دم کر کے آپ نے عصا سے تین جگہ ضرب لگائی۔ خط پر ضربیں لگانے سے مریض اس قدر تڑپا جیسے کوئی اس کو مار رہا ہے۔ پھر بیہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس

کے کپڑے اچھی طرح جھاڑ دو۔ کپڑے جھاڑتے وقت ایک چھوٹا سا زہر ملا سانپ نکلا۔ جس کو تین جگہ ضرب لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مرض بالکل تندرست ہو گیا۔ دینا بیگ کی عورت قدبوس ہوئی اور آپ کو بہت اعزاز کے ساتھ تحائف نذر کر کے رٹڑ چھتر پہنچا گیا۔

اب تک سکونت دھرم کوٹ میں تھی۔ ۱۵ اچیت سہ ماہی ۱۸۱۱ بکرمی کو آپ نے اس ارادہ سے کہ اپنی اصلی جگہ کو آباد کیا جاوے۔ رٹڑ چھتر کے تھہر پر ایک خام قلعہ تعمیر کرایا اور اس کا نام کوٹ میاں صاحب رکھا گیا۔ آپ خود اس قلعہ میں آباد ہوئے اور باہر کچھ مکان خادموں کے لیے بنوائے۔ قلعہ کے گرد خندق کھدوائی گئی۔ قلعہ کا دروازہ مشرق کی طرف تھا جس پر ہر وقت پہرہ لگا رہتا۔ ڈیوڑھی کے بالا خانے پر سامان جنگ تھا جس کے پہرہ کے لیے دس سپاہی متعین تھے۔ قلعہ کا دروازہ شام کے وقت بند ہو جاتا اور صرف ایک دریچہ کھلا رہتا جو بعد نماز عشا بند کیا جاتا تھا۔

سہ ماہی ۱۸۱۳ میں قلعہ کے مشرقی طرف ایک مسجد و چاہ نچتہ تعمیر کرایا۔ مسجد کے مشرقی جانب ایک باغ لگوا یا جس میں مختلف پھلدار درخت لگائے گئے۔ آم کے بعض عمدہ درخت دینا نگر اور پٹھان کوٹ سے لاکر نصب کیے گئے۔ یہ باغ بعد میں غیر آباد ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت پیرام علی شاہ مرحوم کے زمانہ تک جامن اور بیروں کے درخت وہاں موجود تھے۔ اب وہاں پر قبرستان ہے اور آم کے درخت بھی ہیں جو بعد میں لگائے گئے۔

اخیر عمر میں ضعف بصارت اور درد شقیقہ کی شکایت ہو گئی۔ آپ نے اپنے لڑکوں کو جمع کر کے کام کی تقسیم کر دی۔ اس طرح پیر کہ سید کرم کریم کو معتقدین و مریدین کی خدمت و نگہداشت و مہمان نوازی پر مامور فرمایا۔ اور سید نطف کریم کو امر اور احکام کی ملاقات، اسلحہ خانہ اور عام انتظام کا کام سپرد کیا۔ سید شاہ کریم کو فوج شاہی میں ایک معزز عہدہ پر ملازم کرا دیا اور سید میر کریم کو تعویذات و عملیات کا کام دیا گیا۔

۱۰ غالباً یہ لفظ خام ہے

سید فضل کریم جن کی کتاب کے چند شعر نقل کیے گئے ہیں۔ تعلقات و نبوی سے
علیحدہ ہو کر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کو اپنی خدمتِ خاص کے
لیے رکھا گیا۔

آپ نے جو تقسیم فرمائی وہ اب تک آپ کی دعا سے قریباً اسی طرح جاری ہے۔
آخر عمر میں آپ کی بصارت جاتی رہی اور آخر اس پیر مرد نے جس نے رتڑ چھڑ
کو از سر نو آباد کر کے اپنی نیکی اور تدبیر سے شاہانِ وقت کی نظروں میں وقیع بنا دیا
تھا۔ ۱۰ ذی قعدہ ۱۱۸۰ھ مطابق ۱۶۶۲ء بروز شنبہ ۹ سال کی عمر میں باپام
سلطنت شاہ عالم ثانی اس دار فانی سے عالمِ جاودانی کی طرف مراجعت فرمائی۔
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

آپ کا مزار مبارک خام اسی باغ میں جو مسجد کے مشرق کی طرف آپ نے
لگایا تھا بنایا گیا۔ بوجہ کہنگی نشانِ مزار معدوم ہونے والا تھا کہ ۱۹۲۹ء میں میر
محمد زاہد صاحب مدظلہ نے از سر نو تعمیر کرایا اور چار دیواری پختہ بنا دی گئی۔ تعویذ
مرقد آپ کی وصیت کے مطابق خام رکھا گیا۔
اب تک تب سو مہ کے لیے آپ کے مزار کی ٹھیکریاں لے کر لوگ باندھتے
ہیں۔ جس سے تب اتر جاتا ہے۔

تاریخ وصال از سید فضل کریم صاحب حج حضرت شاہ محمد صاحب

شجرہ شجر ولایت بوستانِ مصطفیٰ | کامل و اکمل مکمل عامل سر لا دوا
در طریقت پر کامل و سیاست منظر | واقف دروغریاں شاہ محمد پارسا
شجرہ طریقت آپ کا حسب ذیل ہے:

سید شامد، حاجی فیروز شاہ میانی دلے، عبداللہ سلطان پوری، خلیفہ
شاہ شریف ساکن شاہ آباد، جن کو نسبت ادیب سید آدم میوڑی سے ہے۔ حضرت
مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ گویا آپ چھ واسطوں سے حضرت مجدد صاحب سے

ماتے ہیں۔

سید فضل کریم صاحب آپ کے صاحبزادہ نے اپنی قلمی کتاب میں آپ کی نسبت ذیل کے اشعار میں تعریف فرمائی ہے۔

سید شاہ محمد اب من	وصف او بیرونست از حد سخن
علم ظاہر باطنی بروے عیاں	شرح تدقیقات میگردے بیان
در حقائق مویسے بشگافتنے	در غوامض دور تر بنشافتے
استقامت داشت همچوں کوسا	در شریعت بود پائش استوار
در طریقت بود او ثابت قدم	از حقیقت بد نہ غافل و مبدم
بود آن غواض بحر معرفت	کرده حق موصوف با جملہ صفت
یافتہ بد صحبت بس اولیا	حید قطب انخیا مردان خدا
با همه اوصاف و این فضل و کمال	نفس خود را داشته در گوشمال
بد کریم النفس ذات آن کریم	داشته مکروه زینت خود مدام
خود نشسته با فقیراں بے نوا	بجانب بودے ز زمرہ اغنیاء

آپ کی وفات کے بعد کچھ وارثان نے جن میں آپ کے برادر زادہ صالح شاہ بھی شریک تھے آپ کی پیدا کردہ جائداد کی نسبت حاجی محمد شریف صاحب کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ جو بعد تحقیقات خارج ہوا۔ چنانچہ بدھ سنگھ کاردار دھرم کوٹ کی عدالت یہ حکم موصول ہوا کہ آپ کی پیدا کردہ جائداد بری از شرکت غیرے تصور ہووے۔

۱۸۲۲ء میں آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے سید لطف کریم نے موضع سرانے مولانا پرگنہ بٹالہ کا سوم حصہ منیر علی محمد علی اور میر مسعود سے خرید لیا۔ آپ نے دھرم کوٹ میں ایک مسجد و مدرسہ برائے تعلیم دینی بنوایا اور مدرسہ دھرم کوٹ میں مولوی محمد محفوظ صاحب کو مدرس مقرر فرمایا تھا۔ یہ مولوی صاحب امین آباد کے رہنے والے تھے۔ اور آپ کے شاگرد اور مرید تھے۔ آپ کی ایک قلمی مثنوی شریف ذکر مولوی محمد محفوظ صاحب اب تک موجود ہے۔ جس کی آپ نے شرح

شمنوں سے دنیا منور ہونے والی سے حکیم سنائی نے خوب کہا ہے

ورد باند صبر سوز و مرد باید گام زن
شادے راحلہ گرد یا شہیدے راکفن
صوفیے رخرقہ گرد یا حماے رارسن
لعل گرد و در بند خشاں یا عشیق اندر مین
عالی گویا شور یا فلسفے صاحب سخن
بو سعید اندر خراساں یا اوس اندر قرن

برخسے رازنگہ رفتا سے بدیں رہ کے نبرد
روز باید کہ تا یک غیبہ دانہ ز آب و گل
ہفتہ باید کہ تا یک مشت شمشیر از مشت میش
سالہا باند کہ تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
قرنہا باید کہ تا یک کود کے از لطف طبع
دور باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود

جس سال آپ کے جد امجد (دادا) حضرت شاہ محمد نے رحلت فرمائی اسی سال بلکہ اسی رات یعنی سن ۱۱۸۰ھ میں آپ اس ظلمت کدہ مند کو روشن کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ۱۰ ذیقعد شنبہ کی رات آپ کی پیدائش ہے جو سید شاہ محمد صاحب آپ کے جد امجد کی رحلت کی رات ہے۔ گویا حضرت کے جد امجد اپنا جانشین چھوڑ کر راہی ملک بقا ہوئے۔ اور جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے جب آپ کے والد ماجد نے بحالت ملازمت بھڑی شاہ رحماں میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر آٹھ نو سال کی تھی۔ گویا فخریتیمی آپ کو ورثہ میں ملا۔ دھرم کوٹ میں جو مدرسہ تعلیم دینی کے لیے بنوایا گیا تھا۔ اور جس میں مولوی عبدالغفور صاحب مدرس مقرر ہوئے تھے اسی مدرسہ میں آپ کی تعلیم شروع کرائی گئی اور بسم اللہ مولانا عبدالغفور صاحب نے آپ کو پڑھائی۔

آپ نے اپنی طبعی ذہانت کی وجہ سے تھوڑی سی عمر میں ابتدائی تعلیم ختم کر لی۔ لیکن آپ کی علمی پیاس ابھی باقی تھی اور یہ مزید تعلیم کا شوق اب گھر میں پورا ہونا مشکل تھا۔ اس لیے آپ کو کسی اعلیٰ درگاہ میں پہنچنے کی ضرورت تھی۔ ادھر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باعث گھر کا سارا بوجھ آپ پر تھا اور معاش کی طرف سے بھی بے فکری نہ تھی۔

دونوں اعراض کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے انیس سال کی عمر میں سن ۱۱۹۹ھ میں

پشاور کا قصد فرمایا کیونکہ پشاور ان دنوں علم فقہ کے لیے شہرت حاصل کر چکا تھا۔
 معاش کے لیے آپ نے گھوڑوں کی تجارت شروع کی۔
 اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کا سفر پشاور دونوں اغراض تعلیم و تجارت
 پر مشتمل تھا۔ اگر ایک طرف آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اَطْلَبُوا
 وَتَوَكَّلْ بِالْحَيَاتِ کی تعمیل فرمائی تو دوسری طرف آپ کے اسوہ حسنہ کے
 مطابق معاش کے لیے تجارت کو پسند فرمایا۔

میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سفر آپ کی کرامت اور آپ کے پیدائشی ولی اللہ ہونے
 کی دلیل ہے۔ آج اگر ادھر دینی علوم کی تحصیل کا شوق اور علم دین کی قدر دانی مسلمانوں
 میں کم ہو رہی ہے تو ادھر تجارت سے مسلمان بے بہرہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ معاشرتی
 دنگ میں تجارت آپ کی سنت ہے۔ اس سنت کی تعمیل ہر مسلمان پر لازم ہے۔
 خواہ ایک آنہ کی سوئیوں سے ہی کیوں نہ شروع کی جائے اور اس میں کچھ نقصان ہی
 کیوں نہ ہو۔ آج سارا یورپ اور امریکہ اور ہماری ہمسایہ قومیں اسی اسوہ حضور پر
 عمل پیرا ہو کر مفاد حاصل کر رہی ہیں۔

الغرض آپ کی کم سنی کا یہ انتخاب آپ کے ہر معتقد کے لیے ہی نہیں بلکہ
 ہر مسلمان کے لیے قابل تقلید ہے۔ چار سال یعنی ۱۲۰۳ھ تک آپ نے اپنا وقت علمی
 کمال حاصل کرنے میں صرف کیا۔

بعض معمولی واقعات انسان کی زندگی میں تغیر عظیم پیدا کر دیتے ہیں۔ اور
 گایا لپٹ دیتے ہیں۔ اب آپ کی طبیعت انوار الہی کے مشعل ہونے کے لیے تیار ہو چکی
 تھی اور رحمت حق منتظر تھی کہ ایک دن حفیظ نامی ایک نوجوان زنگریز کو آپ نے
 شفیق شریف کے چند اشعار پڑھتے ہوئے سنا جو وہ کسی خاص حالت میں بڑے
 سوز و گداز اور دلسوز انداز میں ذوق و شوق سے با چشم گریباں پڑھ رہا تھا۔ آپ
 پر مصداق ہر حیرت از دل خیزد بر دل ریزد " ان اشعار کا بہت گہرا اثر ہوا۔ آپ
 پر بھی حالت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میاں حفیظ نے ہی زبان میں کیسی تاثیر ہے۔

الغرض اس واقعہ سے آپ کے دل میں ایسی آتش عشق بھڑکی کہ تعلیم کا خیال رہا نہ تجارت کا ہوش۔ آپ تلاش یار میں دیوانہ وار نکل کر چل کھڑے ہوئے اور جذبہ شوق الہی ایسا آپ پر غالب ہوا کہ ۱۲۰۳ھ میں آپ بے اختیار کسی مردِ کامل کے تحتس میں مصروف ہو گئے۔

پشاور سے پایادہ بے زادِ راہ نکل کر جہاں کسی خدار سیدہ صاحب کمال کا تذکرہ سنتے پہنچ جاتے۔ اس طرح آپ نے کابل، غزنی، قلات وغیرہ سب علاقے اور کوہستان پیدل سفر کر کے چھان مارے۔ جہاں آپ تشریف لے جاتے وہاں سے یہی حکم ہوتا کہ آپ کا مقصد اس جگہ حل نہیں ہو سکتا اور غیب سے آپ کو ندامت دیتی کہ آپ جس تلاش میں ہیں نظر آں ہمارا آشیانہ دیگر است۔

اس طرح آپ نے ۱۲۰۳ھ سے لے کر ۱۲۰۹ھ تک باویہ پیمانی کی کہ وشت بیابان کوہ و صحرا چھان مارے۔ آپ ایک رات سے زیادہ کسی جگہ قیام نہ فرماتے۔ متواتر چھ سال کا یہ مجنونانہ تحتس آپ کے انتہائی عشق، علو ہمتی، عزم راسخ اور استقلال کا پتہ دیتا ہے۔

ایک دن آپ قلات کے ق ووق میدان میں تشریف لے جا رہے تھے۔ گرمی کا موسم اور دوپہر کا وقت تھا۔ ایک سایہ دار درخت دیکھ کر آپ اس کے نیچے بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی میں حصول مدعا کے لیے مصروف دعا تھے کہ دوسری طرف سے ایک تپلا ڈبلا شخص نمودار ہوا۔ اور السلام علیکم کہہ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑے سکوت کے بعد اس نے آپ سے حان دریافت کیا اور کہا کہ کہاں جا رہے۔ آپ نے اپنا سارا ماجرا سے وشت نوردی بیان فرمایا۔ اس نے تھوڑی سی خاموشی کے بعد قلم و دات کا غذا اپنی جیب سے نکالا اور کچھ لکھ کر لپیٹ کر آپ کے حوالے کیا اور کہا کہ اس طرف کو چلے جاؤ جس طرف میں نے انگلی سے اشارہ کیا ہے۔ خبردار ایک رات کے سوائے دوسری رات کہیں قیام نہ کرنا۔ تیسرے دن یہ خط پڑھنا۔ تمہارا مطلب پورا ہو جاوے گا مگر یاد رہے اس سے پہلے اس خط کے پڑھنے کی اجازت

نہیں۔ آپ تین روز شبانہ اسی طرف سفر فرماتے رہے۔ تیسرے دن ایک مسجد میں آپ نے وہ خط کھول کر دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے اور چہرہ مبارک آپ کا زرد ہو گیا کیونکہ خط پر نہ کسی جگہ کا نام تھا اور نہ کسی آدمی کا اور نہ کوئی مضمون تحریر تھا۔ صرف چند القاب تحریر تھے جیسے کوئی اپنے پیروں کی طرف تحریر کرتا ہے

چہ گویم با تو از مرغے نشانه کہ عنقا از بلند است آشیانہ

زعنقا بہت نامے پیش مردم | بہ پیش من بود آن نام ہم گم
ادھر آپ اس تشویش میں تھے ادھر اس مسجد کا امام جو تنہا بیٹھا ہوا آپ کی حالت کا معائنہ کر رہا تھا آپ کو اندوہناک دیکھ کر آپ کے پاس آیا اور حالت دریافت کی۔ آپ نے سارا ماجرا اُسے خط بیان فرمایا۔ وہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر کہا کہ مجھے آپ کے حال کا علم ہے۔ آپ گھبراہٹ نہیں یہاں سے پانچ کوس کے فاصلہ پر ایک گاؤں "شالا" نامی مشہور ہے۔ وہاں مسجد میں ایک نابینا حافظ صاحب رہتے ہیں۔ خط اُن کو دے دیں وہ آپ کو سب کچھ بتلا دیں گے۔ آپ ان کے ارشاد کے مطابق موضع شالا میں پہنچ کر حافظ صاحب سے ملے اور خط پیش کیا۔ حافظ صاحب نیک سیرت اور بزرگ صورت تھے۔ خط لے کر اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور دروازہ حجرہ کا بند کر لیا۔ عرصے کے بعد حافظ صاحب باہر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میاں صاحب راقم خط نے پاس ادب کی وجہ سے اپنے پیر کا نام تحریر نہیں فرمایا۔ جن کی طرف یہ خط لکھا گیا ہے ان کا نام نامی حاجی احمد صاحب ہے۔ آپ موضع گوٹھ قاضی المعروف ڈوم شریف میں تشریف رکھتے ہیں۔ آٹھ یوم تک آپ وہاں پہنچ جاویں گے۔ حافظ صاحب نے بڑے تپاک سے رخصت کیا اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہو۔

آپ فرماتے ہیں کہ پھر تو میری یہ کیفیت ہوئی کہ آتش شوق نے مجھے پر لگا دیے

وعدۂ وصل جوں شود نزدیک | آتش شوق تیز تر گرد د

جہاں جا کر میں ڈوم شریف کا نام لیتا لوگ مرے گرد جمع ہو جاتے اور میرے ہاتھ

پاؤں چومتے اور حضرت اقدس کے حالات بیان فرما کر مجھے مسرور فرماتے۔
 آخر ۱۲۰۹ھ میں بوقت شام آپ ڈوم شریف پہنچ گئے۔ جس دن آپ
 وہاں پہنچے اس دن کچھ بارش تھی اور راستہ میں کچھ کیچر پڑسا تھا۔ ابر ہونے کی وجہ
 سے شام کی نماز کے بعد اندھیرا ہو گیا تھا۔ ایک شخص سے مکان کا پتہ معلوم کر کے
 آپ چلے جا رہے تھے کہ تین شخص جن میں سے ایک کے ہاتھ مشعل تھی۔ آپ
 کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ آپ نے سلام میں سبقت فرمائی۔ جواب
 سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ تشریف لے چلیئے۔ ہم آپ کا بہت انتظار کرنے
 کے بعد حضرت کے حکم سے آپ ہی کی جستجو میں آ رہے ہیں۔ الغرض انہوں نے آپ
 کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ قدمبوس ہو کر اور مصافحہ کرنے کے بعد ایک
 گوشہ میں بیٹھ گئے۔ کھانا پہلے ہی تیار تھا۔ کھا کر نماز عشاء پڑھی گئی۔ حضرت اقدس
 آپ کو آرام کرنے کے لیے ارشاد فرما کر خود دولت سر کو تشریف لے گئے اور پھر
 نصف شب کے بعد تشریف لا کر نماز تہجد پڑھی اور طالبان حق کو توجہ بخشی۔ نماز
 صبح کے بعد تلاوت قرآن ہوئی، اور اشراق کے نفل پڑھ لینے اور معمولات صبح سے
 فارغ ہونے کے بعد حضرت اقدس نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میاں صاحب
 رات کو بوجہ سفر اور بارش کے آپ کو تکلیف تھی اور آرام کی ضرورت تھی اس لیے
 آپ کی حالت دریافت نہ کی گئی تھی۔ اب اپنی کیفیت بیان فرمادیں۔

آپ نے اپنی حالت از ابتدا تا انتہا اور اپنے سفر کا واقعہ۔ موضع شالا والے
 حافظ صاحب کا ذکر مختصراً بیان کیا جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ کل آپ کا
 بہت انتظار کیا گیا اور شام کے بعد اپنے لڑکے کو دو درویشوں کے ہمراہ آپ کی
 طرف روانہ کیا گیا تھا کہ کہیں اندھیرے میں آپ راستہ نہ بھول گئے ہوں۔ لے

۱۔ اعلیٰ حضرت پیرام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی حاجی شاہ حسین صاحب ڈوم شریف
 میں پہنچ کر اپنے شیخ سے قدمبوس بھی نہ ہوئے تھے کہ حضرت بزرگوار اپنے یارانِ مجلس سے فرمایا
 (باقی اگلے صفحہ پر) —

خیز تشریف آفرین کلمات کے بعد حضرت تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کے وقت آپ کو غسل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بعد فراغت غسل حکم دیا کہ پہلے استخارہ کریں اور جو کچھ معلوم ہو وہ بیان کریں۔ آپ نے عرض کیا کہ استخارہ کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں کچھ شبہ ہو۔ مجھے تو اس قدر دشت نوروی کے بعد جب مرا مقوم حضور کے قدموں میں لے آیا ہے تو اب استخارہ کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت اقدس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی گئیں اور نماز عشاء کے بعد آپ تشریف لے گئے اور مجھے آرام کرنے کے لیے حکم دے گئے۔ رات بھر پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی۔ تشویش تھی کہ خدا نخواستہ کہیں میری بد قسمتی یہاں بھی مجھے بے بہرہ نہ رکھے۔ تین چوتھائی رات اسی بے قراری میں گزری۔ پچھلے پہر آپ مسجد میں تشریف لائے اور مجھے خلوت میں لے جا کر ارشاد فرمایا کہ جب یہ مدینہ منورہ میں در دولت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر (آخری) سلام کے لیے حاضر ہوا تو مجھ پر ایک بیخودی کی حالت طاری ہوئی۔ اسی حالت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا کہ ذرا خیال رکھنا کہ میرا ایک عزیز تیرے پاس علاقہ پنجاب سے صد ہا مصائب برداشت کرنے کے بعد طویل سفر طے کر کے آئے گا۔ وہ سرست مقبول بارگاہ اور مخمور باد و وحدت ہوگا۔ جب وہ پہنچے تو یہ امانت جو اب تمہارے سپرد کی جاتی ہے اس کے حوالے کر دینا۔ اور حالت کشف میں تمہاری صورت بھی دکھادی گئی تھی۔ بعد ازاں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور خواجگان نقشبندیہ علیہ الرحمۃ کے طریقہ کے مطابق بیعت فرما کر ایک چھوٹے سے حجرہ کے گوشہ میں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کرتے تھے کہ طالب لبند استعداد ادھر (پنجاب کی طرف اشارہ کر کے) سے آ رہا ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ کی کمال رحمت ہے۔ جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو خواجہ حاجی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے ہم منتظر تھے اور جس کے آنے کی ہم نے خبر دی تھی۔ وہی شخص ہے جس کے حالات کا ذکر وہ...
خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ (مؤلف)

اور میں ذکر قلبی کے شغل میں مشغول ہو گیا۔

تھوڑے عرصہ کے بعد مجھ پر توحید و خودی کا راز منکشف ہوا۔ ایک دن گزرنے کے بعد بخودی کی کیفیت جسے بڑے بڑے اہل دل معتبر سمجھتے ہیں اور غیبت سے موسوم کرتے ہیں مجھ پر طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک سمندر میں تمام عالم کو گھیرا ہوا ہے۔ تمام کون و مکان پانی میں ایسا نمایاں ہے جیسے کسی چیز کا عکس۔ آہستہ آہستہ بے خودی غالب آنے لگی اور عرصہ دراز تک رہنے لگی۔ کبھی پہر کبھی دو پہر بعض اوقات رات بھر۔ جب یہ حالت حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ ایک قسم کی فنا ہے جو حاصل ہوئی ہے جیسا کہ کسی صاحب نے فرمایا ہے۔

تیرا ہستی کا رنگ بونہ رہے۔

تو کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے

کہ بجز مٹو کے غیر ہونہ ہے۔

ہو میں ایسا کمال پیدا کر

پھر آپ نے مجھے ذکر سے منع فرمایا۔ بعد اس کے نگہداشت کا حکم فرمایا۔ چار یوم کے بعد مجھے وہ فنا حاصل ہوئی جو عام اولیاء میں مروج ہے۔ بعد اس کے یہ کیفیت جناب اقدس کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کام میں لگے رہو۔ تھوڑی مدت کے بعد پھر ایک نور ظاہر ہوا۔ جس نے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے اس نور کو حق تعالیٰ سمجھا۔ اس نور کی رنگت سیاہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حق مشہور ہے لیکن نور کے پردہ میں۔ پھر فرمایا کہ یہ نور سفید اس واسطے موسوم ہو رہا ہے کہ ذات حق کا تعلق متعدد اشیا سے ہے جو اوپر اور نیچے واقع ہیں۔ وہ نور پھر مجھے سکھاتا ہوا معلوم ہوا۔ یہاں تک کہ ایک نقطہ سا بن گیا۔ حضرت نے فرمایا۔ اس نقطہ کی بھی نفی کر دینی چاہیے۔ بموجب ارشاد کے وہ نقطہ بھی درمیان سے جاتا رہا۔ پھر حیرت مجھ پر طاری ہوئی۔ اس مقام پر مشہود حق خود بخود ہے۔ جب میں نے اس کا ذکر حضرت خواجہ صاحب سے کیا۔ تو فرمایا حضور نقشبندیہ۔ نسبت نقشبندیہ یہی ہے اور اس حضور کو حضور بے غیبت کہتے ہیں۔ حسب الارشاد جناب کے میں اپنے کام میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی نے دو روز کے بعد محض اپنے فضل و کرم سے بمن انفاں عنایت توجہ حضور والا نے موسوم اور موجود کی تمیز عنایت فرمائی۔ جس

سے موجود حقیقی اور موجود مہوم میں تمیز ہوئی۔ صفاتِ افعال کے بعد آثار جو مہوم دکھائی دیتے ہیں وہ حق سبحانہ تعالیٰ کے لیے مہوم ہونے لگے۔ پھر صفات اور افعال کو محض مہوم پایا۔ بعدہ خارج میں سوائے ایک ذات کے کسی کو موجود نہ دیکھا۔ جب یہ حالت حضرت خواجہ صاحب کے حضور میں عرض کی تو فرمایا۔ فرق۔ بعد۔ جمع یہی ہے۔ تمام اولیائے گزشتہ و آئندہ کی کوشش اسی مقام تک ہے۔ اسی مقام کا نام مشائخ نے تکمیل ارشاد رکھا ہے اس سے موافق استعداد اپنی کے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا ظہور ہوتا ہے اور مجھ کو حکم ملا کہ تمہارا معاملہ عنقریب طے ہونے والا ہے۔ ایک دن میں حضرت اعلیٰ کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ آکر کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق تعظیم کرنی پڑتی ہے لیکن دل قبول نہیں کرتا کہ یہ سید ہوں گے۔

میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی دور کا باشندہ ہوں شاید میرے سید ہونے کے متعلق حضور کو شک ہو۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور نے فوراً میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا۔ نہیں نہیں حسین شاہ تمہارے سید ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ تو صحیح النسب سید ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا اور آپ کی اس نگاہ میں نامعلوم کیا اثر تھا کہ میری حالت متغیر ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ عشق حقیقی نے ایسا مست کیا کہ تن بدن کی ہوش نہ رہی۔ کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ کئی دن رات اسی حالت مستی میں جنگل میں پھرتا رہا۔ اسی حالت بے خودی میں میں نے یہ غزل کہی جس کا مطلع ہے۔

اے زحمن بے حجابت درجہاں افسانہ ہا نے ز شمع روئے تو نور راست در سرخانہ ہا
غرض آپ اس جذبہ عظیم اور کیفیت قوی اور غلبہ محالات و واردات میں بجا

۱۔ راقم ان مقامات کا واقف نہیں ناقل ہے۔ عبارت مکتوبات شریف سے ملتی ہے۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ میرزا بدر کو یہ کیفیت کہاں سے ملی۔ (مولف)

سمرتی متانہ دارغزل خواں۔ سر و پا بر منہ۔ سندھ سے سمندر کے کنارہ تک پہنچ جاتے
وہاں پہنچنے پر کچھ ظاہری موش و حواس درست ہوتے تو خواجہ بزرگوار کے دیدار اور
صحبت کا شوق غالب ہوتا تو پھر خدمت حضرت میں پہنچنے کے لیے چل پڑتے۔ جب
حضرت کے مکان کے آٹار والو کو دیکھتے تو بے اختیار ہوجاتے۔ نعرہ ہائے کاشور
مچ جاتا۔ کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ زمین پر لیٹ جاتے اور پھر مجبوزانہ حالت میں دیا ر
سندھ میں سحر اور دی کرتے۔ کچھ حالت سنبھلتی تو پھر حاضر دربار ہوتے۔

خواجہ بزرگوار اپنے احباب کی مجلس میں فرمایا کرتے کہ شہباز بلند پرواز (یعنی
سید حسین شاہ) واپس آ رہا ہے۔ آپ کے پہنچنے پر حاضرین مجلس پر عجیب کیفیت طاری ہوتی
تیسری دفعہ آپ حالت مغلوبیت و بے خودی و بے خبری میں خواجہ بزرگوار کے
مکان سے نکل کر تھکا پورا پہنچے۔ ان دنوں میں جبکہ آپ پر عالم محویت و وحدت، احدیت
اور حقیقت کے راز منکشف ہوئے تھے۔ آپ نے کسی غزلیں کہیں جو مرآة المحققین میں
چھپ چکی ہیں۔ اس لیے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

آپ کے کلام کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مصداقہ نالہ پابند نے نہیں ہے۔
اشعار کیا ہیں، جذبات دل کی تراوش ہے شعریت مقصود نہ تھی۔ تاہم صاحب ذوق سلیم
خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آپ کا کلام الملوک، ملوک الکلام ہونے کا پتہ دے رہا ہے آپ
کا تخلص سمرتی ہے۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کا وجود باوجود ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے۔
اس سلسلہ میں کسی نے راز ہائے حقیقت کو اس طرح ظاہر نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس قسم کی
مستی کا کسی سے اظہار ہوا۔

صاحب آیاتِ قیومیہ فرماتے ہیں:

در سلسلہ عالیہ نقشبندیہ احد سے اسرار حقیقت را این چنین فاش نہ کردہ و بطشت
از بام غیباختہ و کسے چہاں مستی نہ وزریدہ۔

اگرچہ در کمالِ سکر و بے خودی این اشعار بے اختیار از ایشاں سر برزودہ اند۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حاضر دربار تھا۔ کہ اچانک بہت سا ٹڈی دل آ گیا۔ مگر ڈی نے فضل اور باغوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ آپ نے بطریق سنت سات دانہ مگر ڈی کے پکڑوا کر کباب کرائے۔ چار دانہ خود تناول فرمائے اور تین مجھے عنایت کیے۔ حسب الحکم میں نے وہ کھا تو لیے مگر طبیعت میں کراہت و نفرت تھی۔

اسی وقت شوقِ محبتِ ذوقِ مستی سب جلتے رہے اور میرا کل حال تمغیر ہو گیا۔ حیران تھا کہ یہ کیا غضب ہو گیا اور کیا مصیبت اور سختی پیش آگئی۔ جنگل میں نکل جانا۔ رات بھر گریہ و زاری کرتا اور اپنی قسمت پر ملامت کرتا۔ کئی دفعہ خیال ہوا کہ کسی چاہ یا دریا میں ڈوب کر مر جاؤں۔ غرض کسی کروٹ چپن نہ آتا تھا۔ اسی حالت میں چینی و کرب میں پورا ایک سال گزر گیا۔ ایک رات مسجد میں اشعار و ردناک پڑھتا اور روتا تھا۔ طبیعت سخت اندوہناک تھی۔ یہ شعر ورد زبان تھا۔

زجامِ احمدی گربازیک جرعہ بکام افتد ہمائے اورج لاہوتی ہماں ساعت بدام افتد
اتنے میں حضرت دولت سرائے سے مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا حسین شاہ
کیوں روتا ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔

دل ساریق جس کا جدا ہو گیا ہو یا وہ اپنی بکسی پہ نہ روئے تو کیا کرے
اور عرض کیا کہ حضور جس کی تمام عمر کی دولت ہاتھ سے جاتی ہے۔ وہ اپنی بد قسمتی
پر کیوں نہ روئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ (تین دنے مگر ڈی سے توبہ کیوں نہ کرے)
اس وقت مجھے اپنا تصور معلوم ہوا اور میں نسلو بہ کی۔ پھر توبہ کی۔ پھر توبہ کی۔ جھنڈ
نے بعد نماز تہجد میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو دروازہ فیض کھل گیا اور دریائے رحمت
ٹھاٹھیں مارنے لگا۔

جن دنوں میں بحالتِ جذب صحرا نوردی کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کسان قلابہ رانی
کر رہا ہے۔ ہل چلاتے ہوئے اس کا ایک ہل تھک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کسان اس کو مار
مار کر اٹھا رہا تھا مگر ہل نہ اٹھتا تھا۔ میں نے اس کو منع کیا کہ نہ مارو۔ مگر اس نے میرے
کہنے سے اور برا فرودختہ ہو کر بہت زور سے ایک۔ دو۔ تین کہہ کر مارنا شروع کیا۔ تیسری

دفعہ مارنے پر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ اس کو اسی طرح اٹھا کر حضرت کے حضور میں لائے اور کہا کہ آپ کے درویش نے اس کا کلیجہ نکال لیا ہے۔ آپ نے دم کیا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حسین شاہ کلیجہ نہیں نکالا کرتا۔ بلکہ وہ اس وقت حالت ایثار میں ہے جب میں بارگاہِ حضرت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے ازراہِ شفقت میرے جسم پر ہاتھ پھیرا تو جاٹ نے جس قدر صل کو مارا تھا اس کے نشانات میرے جسم پر موجود تھے۔ ایسی حالت ایثار پہلے بھی بزرگوں پر وارد ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کا واقعہ بھی اسی قسم کا مشہور ہے کہ جب نانباٹی لڑکے کو بادشاہ نے تازیانے لگائے تو ان کا نشان اور زخم امیر خسرو کی کلائی پر بھی تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے جب حضرت امیر خسرو کو دربار میں طلب کیا اور اس لڑکے کی محبت کے متعلق استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں دوئی نہیں۔ بادشاہ نے گواہ مانگا۔ فرمایا کہ گواہ عاشق صادق در آستین باشد۔ چنانچہ آپ کی کلائی پر اسی قسم کے زخم تھے جو نانباٹی لڑکے کے لگے تھے۔

اسی طرح لیلیٰ نے فصد اپنے گھر میں کھلویا اور محبوں کو اسی رنگ سے جھگل میں نون رواں تھا۔ وہ تو عشق کا معاملہ تھا۔

اور یہ رحم کا تقاضا ہے جو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ... الخ کے مطابق جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تکلیف شاق گزرتی ہے۔ آپ کو بیل کی حالت پر اس قدر رحم آیا کہ اس کی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑی۔

عرصۃ تک میری یہی حالت رہی۔ ایک رات میں بجاہتِ مستی شعر کہتا ہوا پھرتا تھا۔ ایک درویش نے حضرت کی خدمت میں میری اہم مزاجی و شعر خوانی کے متعلق عرض کیا۔ آپ نے مجھے بلوا کر فرمایا حسین شاہ! شعر نہ کہا کرو بلکہ سخت ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ بعض لوگ اس منزل میں پہنچ کر منزل مقصود سے رہ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ معاملات سالکِ حقیقی کو دوسری طرف لگا کر اصلی راہ سے روک رکھتے ہیں اور سداہ ہو جایا کرتے ہیں۔ بہت سے منصور مشرب اس بحرِ فنا سے جان بچا کر نہیں

نکل سکے۔

یہ فرمان حضرت کاسن کر مہیبت اور خوف کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ زبان تو حسب فرمان حضرت بند کی گئی۔ لیکن دل میں وہ جوش و خروش تھا۔ جو بند نہ ہو سکتا تھا۔ ایک دیگ جوش مار رہی تھی۔ شبانِ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا کہ

گفت اے موسیٰ وہاںم دوختی ۔ وز پریشانی تو جانم سوختی
لیکن یہاں یا رائے دم زدن نہ تھا۔ اسی حالتِ سکر میں بیت اللہ شریف کو چل دیا۔ جب بندر سورت میں پہنچا تو یکایک وہ حالت تبدیل ہو گئی۔ ذوق، شوق، محبت، مستی سب جلتے رہے۔ ایک لمحہ میں ایسی حالت دگرگوں ہوئی کہ کسی پہلو قرار نہ آتا تھا اور کچھ نہ سوچتا تھا۔ ناچار واپس خدمتِ حضرت میں آیا اور حاضر حضور ہو کر اپنی سرگزشت عرض کی۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں حسین شاہ تمہاری واپسی میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے جس کے ظاہر ہونے میں ابھی کچھ مدت باقی ہے۔ اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوگی۔ تمہارے اس سفر میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ پھر فرمایا۔ حسین شاہ اگر بلا اجازت چلا جاتا تو تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہوتا۔ پھر ارشاد ہوا۔ ابھی تم اس جگہ کے جانے کے لائق نہیں ہوئے کیونکہ تمہاری کچھ تکمیل ابھی باقی ہے۔ طالبِ حق کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ جانا چاہے پہلے اپنے آپ کو وہاں جانے کے لائق بنا لیں۔ پھر وہاں جاوے۔ پھر حکم ہوا۔ میاں مالکِ حقیقی کی جب مرضی ہوتی ہے تو وہ خود بلا لیتا ہے۔

آپ پر محبت اور زیارتِ روضہٴ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال غلبہ تھا۔ اسی جوش کی حالت میں آپ دو دفعہ کنارہ سمندر تک پہنچے۔ گو اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ تھوڑی سی توجہ سے خواب اور بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر کے جس کام کی ضرورت ہوتی عرض کر کے رہا کرتے۔

کر لیتے۔ مگر یہ دونوں سفر آپ نے اپنے عشق و محبت سے بے خود ہو کر بحالت
ہوش و مستی کیے۔

آپ جب خواجہ بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی آپ نے اپنے قصد
حج ثانیہ کے متعلق کچھ نہیں نہ کیا تھا کہ خواجہ بزرگوار نے آپ کو حج کی اجازت
عنایت فرمادی اور رخصت کیا۔

کیفیت سفر حجاز | آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہ تعمیل حکم سفر شروع کر دیا۔
سامان سفر میرے پاس بظاہر ایک دلق، ایک کرتا،
ایک پاجامہ اور ایک ٹوپی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پاؤں میں جوتا تک نہ تھا۔ لیکن
جذبہ محبت الہی اور شوق زیارت کا گنج فراوان سنبھالنے نہ سنبھل سکتا تھا۔ ادھر
جسمانی حالت کا یہ نقشہ تھا کہ تین تین دن تک کھانا نہ ملتا۔ اور پاؤں متورم ہو کر پھوٹ
گئے تھے۔ جن سے خون بہتا تھا۔ کانٹے اور کنکر زخم مرزخم اور چرکے پر چرکے لگا
جاتے تھے۔ کسی دن کوئی نمی تکلیف ہو جاتی۔ کسی رات کسی دوسری مصیبت کا سامنا
ہوتا۔ لیکن دل کی توجہ بہ غلبہ شوق محبت یہاں تک تھی کہ ان تکالیف کی پرواہ تو کیا
ظاہری مصائب آتش شوق پر پیل کا کام دیتے تھے۔ ہر لحظہ اور ہر قدم پر دو گنا شوق
بڑھتا جاتا تھا۔ اور صد ہا تجلیاتِ الٰہی سستی کو جلا جلا کر اکسیر بناتے جاتے تھے۔
غرض صد ہا عنایات الہی اور گونا گوں انعامات نامتناہی سے میرا یہ سفر طے ہو رہا
تھا۔ اور جو جو کیفیتیں اس سفر میں مجھ پر وارد ہوئیں وہ دل یا روح ہی جانتے ہیں۔
قلم و زبان میں اس کے اظہار کی طاقت کہاں۔ بمصدق سے
کہ رازِ عاشقان عاشق بداند

بہر حال مکہ معظمہ ایسے ہی حالات میں پہنچا۔ حرم میں داخل ہوتے ہی حقیقت
بیت اللہ سے آشنا ہونے پر کچھ اور ہی حالت ہوئی۔ اسی جگہ بحالت سکرو
بے خودی یہ غزل کہی۔

خوش بیاموئے و نام لے کل خندان من شمع مھل شو مزاور کلبہ احسزان من

رخت از ہجرت دل و جان من از دردِ فراق در میان چاہِ غم ہے یوسفِ کنعانِ من
 جلوہ نما از دلِ حُسنِ جہاں افروزِ خویش الہامتدازِ فراق تے مہرِ تابانِ من !
 شروع سفر سے اعلیٰ حضرت کی زیارت نہ ہوئی تھی۔ حرمِ مکہ میں مذکورہ غزل کہی
 گئی۔ خیال آیا کہ آپ نے شعر سے منع فرمایا تھا شاید اس گستاخی میں گرفتار ہوں طبیعت
 میں سخت گھبراہٹ تھی (کہ آخر) بحالتِ طوافِ ہمراہ حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا حسین شاہ گبیراؤ نہیں۔ خوشی سے
 طواف کرو۔ میں نے تمہاری پشت پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔

چند روز مکہ معظمہ میں قیام اور فیوضاتِ نامتناہیہ سے مستفیض ہونے کے
 بعد مدینہ شریف جانے کا حکم ہوا۔ مرزا سنگبیں بیگ از ریاستِ پٹیالہ (پنجاب) جو
 ان دنوں مکہ معظمہ میں فوجِ شاہی میں ملازم تھے۔ آپ کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے۔
 کہ آپ کی خدمت اور غلامی کو فخر خیال کرنے لگے۔

مرزا صاحب بھی سلسلہ ملازمت اسی قافلہ میں آپ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی
 طرف روانہ ہوئے۔ فخرِ موجوداتِ سرورِ کائناتِ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرف ان کا ایک عاشق یا اپنے نانا کی طرف ان کا ایک نواسہ حسن رنگ میں جا رہا
 تھا۔ بھلا اس کو کچھ جیسا جاہل کیا بیان کرے گا اس کو تو یا جلنے والا جانے یا
 بلانے والا۔ نانا کے معراج کے سفر سے نواسہ کے سفر کو کچھ نسبت ہو تو ہو۔ یا مرزا
 سنگبیں بیگ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی کہ کس طرح کون کہاں جا رہا ہے! ہڈی
 آنکھیں اور اندھے دل کیا دیکھیں اور کیا جانیں۔ محبوبِ خدا جانے یا محبوبِ خدا
 کا محبوب۔

بارے یہ سفرِ عشاق منزلِ محبوب کے آثارِ نظر آنے پر ختم ہوا۔ روضہ پاک کا
 وہ گنبدِ خضرا دیکھتے ہی آپ نے ایک نعرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش
 میں آکر چلتے اور پھر بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دفعہ شہ کی زالی میں گر گئے۔ مرزا صاحب
 نے کپڑے صاف کر کے پہنائے۔ اور عرض کیا کہ آپ کھانا ڈیرہ پر کھایا کریں گے

یا کسی اور جگہ۔ فرمایا پہلے جگہ تجویز ہوئی چاہیے۔ مرزا صاحب نے ایک روضہ جو روضہ عالیہ کے قریب تھا تجویز کر دیا۔ جب آپ کی رہائش کا انتظام ہو گیا۔ تو مرزا صاحب نے کھانے کے لیے عرض کیا۔ فرمایا یہاں پہنچ جایا کرے تو بہتر روزہ ڈیرے پر۔ عرض مرزا صاحب کھانا وہیں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے خوش ہو کر مرزا صاحب کے حق میں دعا فرمائی۔

آپ نے پہلے غسل کیا، کپڑے بدلے اور بعد شوق روضہ عالیہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ در اقدس پر حاضر ہوتے ہی دُور شوقِ محبتِ محبوبِ الہی میں دل جوش مار مار کر سینہ سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ آپ ہر چند اپنی طبیعت کو روکتے اور زبان بند کرتے مگر یارائے ضبط کہاں۔ زیارت کرتے، آداب بجا لاتے مسجد نبوی دیکھتے پروانہ دار گرتے۔ بار بار دیکھتے اور بار بار بے موش ہو جاتے۔ عرض روضہ مطہرہ پر آپ کی حاضری کی کیفیت ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی۔ ہاں مولانا جامی علیہ الرحمۃ ہوتے تو شاید اس طرح کا کچھ نقشہ کھینچتے۔

چوں شد بخوں جگر بستہ روزن دیدہ	ز چاک سینہ رخت را کند نظار دلم
بدور ساغر لعلت درست کے ماند	اگر بود چو دولت فی المثل سخارہ دلم
مولے وصل تو بار آردش اگر صدیاً	جہد ز آتش عشق تو چوں شرارہ دلم
اگر شمار اسیران زلف خویش کنی	مباد آ آنکہ بیاید درال شمارہ دلم

مگو کہ قطرہ خون در کنار جامی نیست

چو دیدہ موج زرقاد بر کنارہ دلم

گویا اسی معراج کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ اُدُنِ صبیٰ کی آوازیں سن رہے ہیں۔ یا طور پر لکن تراپی سنتے ہوئے محوِ نظارہ ہیں۔ لیکن یہ نظارہ ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ جان سے کر رہی ہیں۔ بقول حضرت قلندر مرحوم

غیرت از چشم بریم روئے تو دیدن ندیم گوش را پنہ حدیث تو شنیدن ندیم

چونکہ صرف تذکرہ ہی نہیں بلکہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے

مجھے معذور سمجھیں۔ اگر تین تدمر سمجھ کر پھر یہ واقعہ صاحب آیات القیومیہ کے الفاظ میں پیش کروں۔ کیونکہ مجھ جیسا گنہگار اور بے علم اس کیفیت کے بیان سے قاصر ہے۔

حضرت خواجہ بزرگوار کی نظر منظور ہو کر محض عنایت ربانی سے توحید و جدوی سے توحید شہودی میں پہنچ گئے اور اعلیٰ مقامات کے مالک ہو گئے۔ جب کہ ستارہ مشتری کا دور تھا۔ حضرت اعلیٰ کو اجازت نامہ کاملہ کی خلعت سے ممتاز فرما کر پنجاب کی طرف جہاں آپ کا آباد اجدادی وطن تھا رخصت فرمایا۔

بنظرات عنایت حضرت خواجہ بزرگوار منظور نظر ہو رہے محض بہ عنایت از توحید و جدوی بہ مرتبہ توحید شہودی رسید و بمقامات عالیہ و درجات متعالیہ فائز شدند۔ در ساعتی کہ مشتری از و کسب نماید حضرت اعلیٰ را خلعت اجازت کاملہ پوشانیدہ بہ پنجاب کہ وطن مالوت آن حضرت بود رخصت فرمودند۔

اجازت نامہ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے
اسے عزیز و جانو! کہ سالک جب
تک کشش فنا میں جس کو ہم عدم کہتے ہیں
سیر کرتا ہے ممکن ہے کہ کسی رو کا وہ سے پھر بشریہ

اجازت نامہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بدانند کہ سالک تا دم کہ از فنا خدے
کہ معتبر بہ عدم ست سیرے کند در راہ است
بجتمل کہ بہ عارضے باز بہ وجود بشریہ عود کند۔

۱۔ آیات قیومیہ فارسی زبان میں حکیم احمد علی صاحب دھرم کوٹی خلیفہ حضرت قیوم عالم پیر امام علی شاہ صاحب کی تالیف ہے جس میں آپ نے نہایت تحقیق سے واقعات قلم بند فرمائے ہیں۔ اس نسخے کو میاں شیر محمد صاحب مرحوم مشرقپوری نے خوشنویسی سے نقل کرایا ہے۔ (موت)

آیات قیومیہ کا قلمی نسخہ حضرت قبلہ سید محفوظ حسین شاہ صاحب مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان شریف کے پاس بھلیہ نزد سالک ہل ضلع شیخوپورہ میں بھی موجود ہے۔ (ناشر)

و جو میں واپس لوٹ آؤں اور فنا جذبی کا
 انتہائی سیرالی اللہ تک ہے اور سیرالی اللہ سے
 مراد یہ ہے کہ امکان کے دائرے کے مقامات
 سے ایک مقام کا قطع کرنا ہے اور فقیر جب
 امکان کے تمام مراتب کو طے کر کے نہایت
 کے نقطہ پر پہنچ جاتا ہے وہاں سیرالی اللہ
 بھی ختم ہو جاتی ہے اور فنا مطلق حاصل ہو
 جاتی ہے۔ اور اس مقام پر خدا تعالیٰ کے
 ملنے کا موقع آجاتا ہے پھر بشریت کی طرف
 واپس آنا معدوم ہو جاتا ہے۔ جو پھر تازہ
 راستہ سے مڑ سکتا ہے اور جو مل گیا پھر وہ
 واپس نہیں آتا۔ پس بزرگوں کی پناہ والے اور
 سرداری کی طاقت والے سید حسین شاہ (رحمۃ اللہ علیہ) اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی سے احدیت کی کشش کے حامل کرنے
 کے بعد امکان کے دائرہ کو پورا طے کیا اور سیرالی اللہ کو
 بھی پورے طور پر ختم کر کے فنا مطلق حاصل کی آپ مرید
 کے درجہ سے مراد کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اور سیر
 فی اللہ میں اخل ہو گئے ہیں اور اس سیر الہی کی
 نہایت یہی مقام ہے۔ ہر ایک عارف نے
 اپنی استعداد کے مطابق مختلف درجوں سے
 اس انتہائی سیر میں ملکہ پیدا کیا ہے۔ اس
 بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں اور سید حسین شاہ صاحب
 اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ اگر بندگان خدا میں سے

و این فنا جذبی و عدم تا بہ نہایت سیر
 الی اللہ است و سیرالی اللہ عبارت
 از قطع مقلے از مقامات دائرہ امکان
 است۔ و چون سالک تمام مراتب دائرہ
 امکان را طے کرده بہ نقطہ نہایت آن
 رسید پس سیرالی اللہ تمام شد و فنا
 مطلق حاصل گردید۔ و بہ تحقیق موصلا
 بحق سبحانہ تعالیٰ پیدا گردید و رجوع
 بہ بشریت ممتنع شد۔ ما رجع من
 رجوع الا من الطریق۔ و من سر
 لایرجع۔ انتہی۔ پس فضائل و شگاہ
 سیادت پناہی سید حسین شاہ بفضل
 حق سبحانہ تعالیٰ بعد حصول جذبہ
 احدیت تمامی دائرہ امکان را طے نمود
 و سیرالی اللہ را با تمام رسانیدہ فنا
 مطلق حاصل کردہ از حد مرید گذشتہ
 مراد گردیدہ است و در سیر فی اللہ
 داخل شدہ است و این سیر را نہایتی
 این است۔ ہر کس از عارفان علیٰ تفاوت
 الدرجات بہ حسب استعداد خود درین
 سیر نہایت حاصل نمودہ است۔
 کہ فوق آن اور امتصو زنیست و سید
 حسین شاہ استعداد آن وارو کہ اگر کس

کوئی طالب آپ کی بیعت کر کے طریقہ علیہ
نقشبندیہ میں داخل ہو۔ بڑے بڑے فیوض
میں مستفید ہوگا اور اگر سید حسین شاہ (رحمۃ اللہ علیہ)
بعض احباب کو استخارہ اور دلی اجابت اور
ریا اور عجب اور تکبر سے توبہ کر کے طریقہ
میں داخل کریں تو مجاز ہیں لیکن یہ ضروری
امر ہے کہ حلقہ اور طالبوں کے اجتماع میں
مناسب طور پر تعلیم اور ترتیب کر کے آپ
ہمیشہ خداوندی اوصاف کے دریا میں بطن
سے بطن دیکھو اور اس بطن سے بطن البطون
تک محو اور تلاش کرنے والے ہیں۔ کیونکہ
اجتماع کو شرط مذکورہ کے ساتھ مقصود کے
حاصل کرنے میں اثر عظیم ہے۔ اسے مولا
ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ادھر ادھر
نہ پھیرا اور درود اور سلام خلقت کے برگزیدہ
محمد پر اور آپ کی آل اور تمام اصحاب پر ہے

احمد

آپ اجازت نامہ لے کر باطنی نعمتوں کو
حاصل کر کے اپنے وطن شریف میں تشریف
لائے آپ کی تشریف آوری کو ادھر کے
رہنے والوں نے عنایت سمجھ کر حضرت صاحب
کے سلسلہ مریدوں میں داخل ہو اور صحبت گرم
ہوئی اور شغل اور مراقبہ کے حلقہ نے ایک عجیب و

بہ ادبیات نمودہ داخل طریقہ علیہ نقشبندیہ
شوند۔ یہ فیوض عالیہ مستفید خواہند گردید
سید حسین شاہ اگر کسان را بہ شرط استخارہ و
فتوئے دلی و بشرط تبری از ریا و سمعہ و عجب
داخل طریقہ نمایند مجازست۔ اما لازمست
کہ در حلقہ و اجتماع طالبان بقدر احتیاج
تعلیم و تربیت نمودہ مدام در بحر بیخونی من
بطن الی بطن و من بطن الی بطن البطون
مستغرق و متلاشی باشند کہ اجتماع را بہ
شرائط مذکورہ در حصول مقصود تاثیرست عظیم
اللہم لا یزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
و الصلوٰۃ والسلام علی اشرف الخلق
محمد و آلہ وسلم و اجمعہم اجمعین
احمد

اجازت نامہ حاصل کردہ بہ قراواں
نعمتہاے بہ وطن بازگشتند مقدم
شرف ایشان را اسکنایے این دیار
منعم از گناہتہ بسیارے در سلک ارادت
حضرت خواجہ بزرگ درآمدند و صحبت
گرم شد۔ و حلقہ شغل و مراقبہ الساعی پذیرفت

منور چہرے نہ برآمدہ بود کہ در آئینے
گرمے صحبت عشق زیارت حرمین شریفین
غلبہ نمود و محبت روضہ منورہ رسول اللہ
علیہ و علی آلہ الف الف صلوة و سلام
استیلا کرد۔ چنانچہ یکبارگی بساط افاضہ و
استفادہ برچیدند۔ در آیام غلبہ حالات
واردات کہ حضرت اعلیٰ را در صحبت مزید
المفاخرت حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ
رو نمودہ حضور حضرت سرور کائنات علیہ السلام
و التسلیمات تواتر شرف افزا شدہ کہ در مناسبات
واقعات بانگ توجہ بحضور رسالت ماتیت
علیہ و علی آلہ الف الف صلوة و سلام مشرف
گشتہ۔ در ہر امر کہ مباشرت ببلک میکردند
اجازت حاصل مے شد۔ با وجود آنکہ بہ سبب
کثرت شوق متوجہ بجانب کعبہ گشتند۔ از
حضرت رسالت پناہی علیہ و علی آلہ صلوة
سلام در آن باب اجازتے و از خداوند قبلہ
پیرو مرشد خود اشارتے نیافتہ۔ از لب یاس
شور و بار باز گشتند۔ پس ہر گہ کہ بعد
بلوغ بمرتبہ تکمیل با اجازت تعلیم طریقت
سرفراز شدہ بہ وطن مالوفہ خود مراجعت
نمودند و ہنگامہ نبرہم طالبان گرمہ کردند۔
بیک ناگاہ از حضرت سرور کائنات علیہ

حاصل کی۔ ابھی تھوڑے ہی دن نہ گزے تھے
کہ آپ کے خیال شریف میں زیارت حرمین
شریفین کا دلولہ جوش زن ہوا اور محبت و
زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ان پر ہزار ہا درود اور سلام ہو غلبہ کیا چنانچہ
اس جوش میں یکدم ہی فیض کا بستر الیٹ یا
غلبہ حالات واردہ کے دنوں میں جو خواجہ
بزرگوار سے آپ کو حاصل ہوئے تھے حضور
پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت
متواتر ہوتی تھی اور عالم خواب اور بیداری میں
تھوڑی سی توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کے حضور میں آپ پر ہزار ہا درود اور سلام
ہو شرف حاصل کر کے جس کام کی بابت
خواہش ہوتی تھی۔ عرض کر لیتے تھے اور اجازت
حاصل ہو جاتی تھی۔ حالانکہ آپ نے نہایت
شوق سے بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کیا
نہ تو حضور پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اجازت حاصل ہوئی اور نہ ہی حضور قبلہ پر اور مرشد
سے بشارت ہوئی اس لیے آپ دفعہ سمندر کے
کنارے پر پہنچ کر واپس تشریف لائے۔ اس لیے
کچھ مدت آپ نے واپس آ کر طالبان محبت کو شربت
وصل پلایا اور اسرار طریقت کو تعلیم کیا یکدم ہی
آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی بارگاہ سے فریضہ حج کے ادا کرنے کے واسطے حکم صادر ہوا۔ آپ کے شوق اور اشتیاق کا سلسلہ حرکت میں آیا۔ گویا وقت نہ تھی۔ اور خرچ راہ بھی کم تھا اور سواری کا سامان بھی کافی نہ تھا اور دریائے شور کی موج زنی بھی حائل اور سوائے اس کے اور بھی خوفناک امور در پیش تھے سب کو طاق نسیان میں رکھ کر متوکلًا علی اللہ چل پڑے اور جب سندھ میں حضرت خواجہ بزرگوار کی خدمت شریف میں باریاب ہوئے تو اس سے پہلے کہ آپ اس معاملہ کا اظہار فرمادیں حضرت خواجہ بزرگوار نے حج کی اجازت عنایت فرمائی پس اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی برکتیں اور بڑی مہربانوں کے ساتھ خیر و خوبی اور آرام اور سکون سے جہاز پر سوار ہو کر منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جب آپ لباس احرام سے مشرف ہوئے دیکھا کہ تمام جنگل کعبہ کے انوار سے بھر گیا اور جب آپ پر بیت اللہ شریف کے انوار چمک پڑے تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور طواف قدم میں بے اختیار لغو ہمارا اور بیہوش ہو کر گر پڑے اور جب آپ نے کمال اشتیاق اور محبت سے چاہا

علیٰ آلہ صلوة و تسلیما ت در باب ادائے حج کہ فریضہ عمرت اشارتے معلوم شد۔ چنانچہ سلسلہ شوق و اشتیاق در جنبش آید اور جو قلت استطاعت و کمی زاد واحد و خوف سواری دریائے شور و مہاکم و گہرہ قدم در راہ تھاوند۔ چون در سندھ شریف بسعادت پاگوس حضرت حجتہ الاولیاء و الاصدقاہ قدس سرہ مشرف شدند۔ پیش از انکہ از ارادہ خود اظہار نمایند۔ حضرت خواجہ بزرگ اذن و رواند۔ پس درین سفر و فورہ برکات و شمول عنایات اللہ جل شانہ و در خود دیدہ بعافیت از سواری جہاز عبور کردہ بمنزل مقصود رسیدند چون بہ شرف احرام مشرف شدند دیدہ اند کہ تمام دشت از نشیب و فراز از انوار کعبہ مملو است در ہنگام ظہور آثار بیت اللہ کیفیہ عظیمہ نمودہ است۔ و در طواف قدم لغو ہائے بے اختیار زود بیہوش افتادہ ہر گاہ بسبب کمال اشتیاق و الحاح خواستہ اند کہ چشمان خود را بمشاہدہ جمال کعبہ اللہ باز نمایند۔ انوار و اسرار ان عالم مقام ایشان را فرو گرفتہ و در وجد و التہاب بخود افتادہ گریبان چاک کردہ بران خاک پاک

غلطی نہ۔ چنانچہ زائرانِ حرمِ محترم
 از ملاحظہ احوالِ عدیم المثال ایشان
 شیفۃ اطوار مجذوبانہ مجنونانہ ایشان گشتہ
 اند۔ علی الخصوص مرزا سہمگین بیگ ہندوستانی
 کہ دران ہنگام درسلک ملازمان شریف
 مکہ زادہ اللہ شرفاً منسلک بودند از
 دیدن حالات ارجمند و لغرہ ہائے
 بلند ایشان کہ شبلی آسا از ایشان
 سر بر نیزند از دل و جان مشتاق
 و والہ ایشان گشتند۔ در ایامِ فاقہ
 در مکہ معظمہ با وظائفِ خدمات قیام
 مے نمودند۔ فی الجملہ در موضع متبرکہ
 ظہورات عجیبہ و اسرار غریبہ مشاہدہ
 کردہ از فیوض و مواہب سر جاہر باب
 گشتند و بدریافت حقائق مسجودیت
 معبودیت صرف حقیقت کعبہ حسنا
 مستفیض گشتہ از مقام ابراہیم خطے
 وافر گرفتند و در وقوف بعرفات
 و بنزول منزل منہ انوار و برکات
 مالا تعد و لا تحصی دیدہ چنان معلوم
 کردند کہ بفضل الہی حج مقبول و
 مبرور گردیدہ و بعد از ادائے
 مناسک حج اسلام و شرائط و آداب

کہ انہی آنکھوں کو کعبہ شریف کے جمال کے واسطے
 کھولیں تو اس عالی مقام کے انوار نے آپ کو ایسا
 پکڑا کہ وجد اور بقیاری میں آئے اور کپڑے پھاڑ
 کر اس خاک پاک پر لڑکھیاں کھانے لگے
 یہاں تک کہ حرمِ محترم کے زیار کرنے لے آئے
 عجیب احوال دیکھنے سے قربان ہوئے تھے خصوصاً
 مرزا سہمگین بیگ ہندوستانی کہ ان دنوں شریف
 مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفاً کے ملازموں میں ملازم تھے۔
 ان کے عجیب حالات اور لغرہ و در و خاک جو شبلی
 رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ کے ظاہر ہوتے تھے
 دیکھنے سے جان و دل سے قربان ہو گئے
 اور جب آپ کو کچھ افاقہ روز نما ہوتا تو خدمت
 و ظالفت بیت اللہ میں قیام فرماتے الغرض
 اس متبرک مکان میں عجیب عجیب ظہور اور
 غریب مشاہدہ کر کے اس مکان پاک کی برکتوں
 حصہ لیتے رہے اور مسجود اور معبود ہونے کے
 حقائق کو معلوم کر کے اور کعبہ شریف کی حقیقت
 سے پہرہ یاب ہو کر آپ نے مقام ابراہیم سے
 پورا حصہ حاصل کیا اور عرفات کے ٹھہرنے
 اور منیٰ میں اترنے سے وہ انوار و برکات جن
 کو ہم نہ گن سکتے ہیں اور نہ شمار کر سکتے ہیں حاصل
 کر کے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا
 حج مقبول ہو گیا ہے۔ آپ فرائض حج کے ادا

کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف
موجود ہوئے اور راستہ میں شوقِ حضور
پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں
یہ مناجات تحریر فرمائی ہے

آن متوجہ مدینہ منورہ شد و دور آٹھائے
توجہ زیارت حضرت رسالت پناہی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این مناجات
انشا کردند۔

مناجات

سگ ہوں میں تیرا دربان یا سید المدینہ
میری جان تو سمجھ یہ قربان یا سید المدینہ
عاجز ہوں بے نواہوں درووں میں مبتلا ہوں
بہر مل مثل ہوں سوزاں یا سید المدینہ
ڈوبا ہوں بحرِ غفلت حرص و موکا قیدی
پیر سے جرم سے دامان یا سید المدینہ
نفسِ لعین سے میرا دل خون ہو رہا ہے
مضطرب ہوا ہوں نالان یا سید المدینہ
مرضِ حرص میں میری جان مبتلا ہے ایسی
درمان سے ہوں میں نادان یا سید المدینہ
مجرم ہوں سخت عاصی شرمندہ پر معاصی
بے زاد راہِ سامان یا سید المدینہ
دوڑا ہوں میں دوا کو حضرت سے التجا کو
دارو سے دژمندان یا سید المدینہ
بے حد جرم سے میری یہ مرضِ لا دواسے
فریاد ہے یہ ارمان یا سید المدینہ
اے ہادیے ہدایت لطف کمال دالے

ستم سگ خیابت یا سید المدینہ
جانم فدائے خاکت یا سید المدینہ
سکین و مستمند محزون و درد مند
سوزندہ چون سپندم یا سید المدینہ
غرغم بہ بحرِ غفلت در بندِ حرص و شہوت
دارم ز جرمِ گسوت یا سید المدینہ
از مارِ نفس ملعون جان و دلم خور و خون
مضطرب شدت محزون یا سید المدینہ
در مرضِ حرص جانم شدہ مبتلا چنانچہ
چارہ از و ندانم یا سید المدینہ
بے حد گناہ گارم جائے امان ندارم
شرمندہ شرمسارم یا سید المدینہ
بہر دوا و دیدم در حضرتت رسیدم
چارہ و گرنہ دیدم یا سید المدینہ
این بے حد و جہائمِ مضیبت لا دوائیم
فریاد ہے نہائیم یا سید المدینہ
یا ہادیے ہدایت یا شاہ ذوالعنایت

دل و جان من فدایت یاسید المدینہ
 اے دو جہان سے تجھ پہ قربان یاسید المدینہ
 قید نفس سے شاداں یاسید المدینہ
 اے بکیوں کے والی اے عاجزوں کے ماما
 سردار جن و انسان یاسید المدینہ
 اے دو جہاں کے شاہا ہہیات حال میرا
 آہ و فغان و نالاں یاسید المدینہ
 اے بادشاہ عزت، لہذا نظر کرم کی
 بر حال ما غریباں یاسید المدینہ
 ہوں چاکروں کا چاکر مشاق تیرے در کا
 عاجز ہوں میں ثنا خوان یاسید المدینہ
 صفت و ثنا میں تیرے ہر دم سے یہ بندہ
 قدموں پہ سر ہو قربان یاسید المدینہ
 در ذوق شوق مولا نے خود دست کرو
 ہر دم ہو آہ و نالان یاسید المدینہ
 قدموں میں حضوری پاؤں شرف تقا سے
 سر ہو یہ میرا قربان یاسید المدینہ
 عرض حسین مسکین کیجو نظر کرم کی
 بر حال غریباں اے سید المدینہ

دل و جان من فدایت یاسید المدینہ
 یا شاہ کون و امکان دست کرم بقیشاں
 از قید نفس برهان یاسید المدینہ
 تو کس بہ بکیسانی عجم خوار عاجزانی
 سردار انس و جانی یاسید المدینہ
 این آہ و ہم فغان ہا بشنوز حال ما ہا
 اے شاہ دین پناہ یاسید المدینہ
 یا شاہ ذوالوقت را بہن بکیے مارا
 نظرے بکن حذرا یا سید المدینہ
 ستم سگ سگانت مشاق اشانت
 مسکین و مدح خوانت یاسید المدینہ
 خواہم ز تو بدایت ہر دم کنم ثنائیت
 سر افکنم بیائیت یاسید المدینہ
 در ذوق شوق مولا کن مست بے سر پایا
 باشم لولے و یلا یاسید المدینہ
 دیگر سرم فدایت یا ہم شرف تقائیت
 باشم حضور پائیت یاسید المدینہ
 عرض حسین مسکین بہ پذیر یا شاہ دین
 کن کرم حال باہن یاسید المدینہ

جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو صحنہ
 پاک کے دیکھتے ہی لغزہ مارا اور یہ ہوش

چون بمدینہ منورہ رسیدہ اند
 بجز و ملاحظہ شمار روحنہ معطرہ نعرہ ہازدہ

ہو کر گر پڑے اور روضہ منورہ کی زیارت
 کے آداب بجالانے اور مسجد نبوی مبارکہ
 کے دیکھنے میں بار بار میوش ہو جاتے اور زمین
 پر گر پڑتے۔ گو اس مقام پاک میں اہلبیت
 اور صحابہ کے نور بھی چمکتے تھے۔ مگر آپ
 نہایت استغراق سے انوار نبوی کے مقابلہ
 میں اور کسی طرف دھیان نہ کرتے تھے۔
 اتفاقاً ان دنوں مرزا سہمگین بیگ بھی
 مدینہ منورہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 میں تھا۔ حضرت اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ آپ
 کا بھید پاک کر لے تمام حالت اور وجد
 میں نہایت محو پایا۔ عرض کی کہ اس خاکسار
 کو مریدوں کے زمرہ میں شامل کر دیں۔
 آپ نے ایک عرضیہ جو نیاز مندی سے پڑھا۔
 ان کی قبولیت کے واسطے اپنے پیر
 دستگیر کی خدمت میں لکھا۔ اور مرزا صاحب
 کو کہا کہ سندھ شریف میں حضور اعلیٰ
 کی خدمت میں حاضر ہو جاویں۔ پس مرزا
 صاحب نے وہاں پہنچ کر جو کچھ پایا سو پایا۔
 حضرت اعلیٰ نے مدینہ شریف میں رہ کر بڑی
 بڑی نعمتیں متواتر آنحضرت صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم سے حاصل کیں۔ آپ نے ان
 عنایتوں کو دیکھ کر سچتہ ارادہ کر لیا کہ

بیوش افتادہ و در آداب زیارت
 روضہ مطہرہ و مسجد نبوی مبارکہ
 زمان زمان از خود رفتہ بر زمین غلطیند
 باوجودیکہ انوار صحابہ و اہل بیت نیز در ان
 مقام تابان بودند۔ از غایت استغراق
 و اتمہلاک و انوار نبوی یہ دیگر سے
 نتوانستند۔ اتفاقاً مرزا صاحب
 سہمگین بیگ در آنوقت نیز بہ
 مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 رسیدہ حضرت اعلیٰ قدس سرہ را
 بہ ہمان حالت در لہجہ وجد و التہاب
 مستغرق دریافت و التماس نمود
 کہ از سلک ارادات ایشاں منسک
 گرد۔ حضرت اعلیٰ عرضیہ محتوی نیاز مندی
 و باب قبول ایشاں بہ جناب پیر
 دستگیر خود بزرگداشتہ دلالت نمود
 کہ در سندھ شریف رسیدہ از
 حضرت خواجہ بزرگ دریافتند آنچه دریافتند
 پس چون در ایام اقامت بہ مدینہ
 سکینہ حضرت اعلیٰ قدس سرہ
 بہ توالی و تواتر عنایات عظیمہ عطا پائے
 فقیمہ از آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم دریافتہ الطافات و

عنایات بے غایات بجال خود دیدند
 غم بالبحر جمع نمودند کہ بقیۃ العمر در
 روضہ مقدس معتکف نشینند و
 اثنائے دیدند کہ حضرت محبوب
 رب العالمین علیہ وعلیٰ آلہ الف الف
 صلوة و سلام تشریف فرمائے شدند
 در حالیکہ انور عظیمہ بر آن حضرت
 متلای ست - فرمودند کہ شمارا بہ
 وطن مالوفہ باید رفت - تا اہالی آن
 دیار بہ دولت برکت کثیر المنفعت تو
 بہ فواید مستفید گردند و اعلیٰ روزگار
 سعادت ملازمت غیر اللویبت تو بمواند
 حیدرہ بہر مند - و زمرہ گم گشتگان
 بادیہ ضلالت از فروغ رابطہ ہدایت
 یابند - و فرقہ متعطشان و اولیٰ جہالت
 از زلال واسطہ تو سیراب باشند
 بدریا آب شیریں بہر آن ست با
 کہ از دوسے گشتگان سیراب گردند
 نہ چون گوہر کہ در معدن ہفتہ !
 بان در کند نش، نایاب گردند
 حضرت اعلیٰ قدس سرہ بہ عرض رسانند
 کہ مجاورت در گاہ جہان پیاہ و ملازمت
 بارگاہ عالم آرام گاہ مقصود دل جانست

باقی عمر حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں گزاریں۔ ابھی یہ
 خیال دل میں گزرا ہی تھا کہ حضور پر نور
 رسول صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ پر
 ہزار ہزار درود و سلام ہو تشریف فرما ہو
 حالانکہ حضرت شاہ صاحب پر کئی قسم کے
 نور چمک رہے تھے۔ ان حضور صلے اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے زبان درشاں سے
 فرمایا کہ عزیز آپ کو اپنے وطن میں جانا
 لازم ہے تاکہ اس ولایت کے لوگ آپ کی
 برکت اور نظر کیمیا اثر سے فائدہ حاصل کریں
 اور زمانہ کے خود اور بزرگ اور غریب اور دولت مند
 آپ کی ملازمت حاصل کر کے بہرہ مند ہو
 جاویں اور کئی گمراہ آپ کی ہدایت سے
 راہ راست پر آجاویں اور جہالت کے جنگل
 کے پیالے سے آپ کے طبعے پانی سے سیراب
 ہو جاویں۔ دیا میں بیٹھا پانی اس لیے
 ہے کہ پیاسوں کی پیاس اس سے بجھے۔
 سوتلی کی طرح کان میں اسانہ چھینا چاہیے
 کہ اس کے کھودنے سے لوگ تنگ ہو جاویں۔
 آپ نے عرض کی کہ میرے دل اور
 جان کا آرام آپ کے دربار
 گوہر بار میں رہنے سے ہے۔

میرادل نہیں چاہتا کہ یہاں سے دور
 جاڑوں۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ اس میں عجیب حکمت ہے
 جس کی آپ کو خبر نہیں۔ ضرور اس امر پر
 راضی ہونا چاہیے اور وطن مالوت کو واپس
 جانا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو
 آپ سے فیض ملے گا۔ اور آپ کے
 دامن کی برکت سے ایک ایسا عزیز پیدا
 ہوگا کہ سورج روشن بھی اس کے نور سے
 حصہ لے گا۔ پھر آپ کے دل مبارک میں خیال
 پیدا ہوا کہ پنجاب کی ولایت میں کوئی ایسا
 آدمی نظر نہیں آیا جس کی صحبت
 سے فیض حاصل ہو۔ حضور انور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے
 والے رسالت کے اور برگزیدہ
 نبیوں کے۔ آپ پرورد اور
 سلام ہو فرمایا کہ جب آپ کو کسی
 خدارسیدہ کے ملنے کا اشتیاق
 ہو تو آپ گڑھی گھرمالی کے علاقہ
 میں جایا کریں۔ ہاں ایک موضع
 سہوال ہے۔ اس جگہ سب فضیلتوں کے
 جامع اور بزرگوں کے بزرگ حافظ
 محمود رحمۃ اللہ علیہ سکونت رکھتے ہیں۔ ان

نے خواہم کہ ازیں در دولت مہجور
 باشم باز فرمودند۔ کہ دریں حکمت
 ست عجیب کہ برآن مطلع نہ البتہ
 مے باید کہ برین راضی شدن و
 در متوطن خود سکونت پذیرفتن کہ
 اکثر مردمان آن جا را از تو فیض
 رسد۔ و از برکت دامن تو چنان
 عزیزے سر برزند کہ بچوں آفتاب
 عالم تاب از انوار ہدایت او عالم
 عالم روشن گرد۔ میفرمودند کہ
 در آن وقت حضرت اعلیٰ قدس سرہ
 را بہ خاطر آمد۔ کہ در دیار پنجاب
 بیچ عزیزے برسد کمال رین
 روز ہا جلوہ افروزیت کہ بوسے
 صحبت و رزق۔ حضرت رسالت
 خاتمیت علیہ آلہ الصلوٰۃ والسلام نور نبوت
 مشرف شدہ فرمودند۔ و تکیہ شمارا
 شوق و عطش ملاقات ارباب کمال
 دامنگیر گرد۔ در علاقہ گڑھی گھرمالی
 موضع سہوال ست در آن مقام
 جامع و مجمع افضل محمد الرجال
 سب سے بہ حافظ محمود علیہ رحمت رب الودود
 زیب سکونت دارند۔ رشتے از ذلال

کے آب شیریں سے لذت اٹھایا
 کریں یہ فرما کر حضرت صلے اللہ علیہ و
 آلہ وسلم تشریف لے گئے اور
 اجازت دے گئے۔ جب آپ
 کو دربار نبوی سے یہ پیغام ملا۔ تو آپ چشم
 گریان اور دل بریان لے کر مدینہ منورہ سے
 نکل پڑے اور واپسی پر دوسری دفعہ کعبہ شریف
 کا طواف زیارت کیا۔ اور حجر اسود
 کو چوما اور کعبہ شریف کی زیارت
 سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے اور جہا
 پر سوار ہو کر ولایت سندھ شریف
 میں حضرت خواجہ بزرگوار کی خدمت
 بابرکت میں شرفیاب ہوئے اور وہاں
 سے فوائد عظیمہ حاصل کر کے وطن
 مالوہ کی طرف تشریف آور ہوئے جب
 حدود پنجاب کو فیض بخش قدموں سے
 مشرف فرمایا تو آپ حسب ارشاد نبوی صلے
 اللہ علیہ وآلہ وسلم دریا جہلم کے کنارہ پر چلے
 پوچھتے عافط موصوف کو ملے۔ عافط صاحب
 کمالیت کے زیور سے آراستہ اور ہر اسے
 باوجودیکہ آپ کی سیر نہایت تیز تھی تاہم
 مردانہ وار ہر مقام سے فائدہ نام رکھتے تھے
 اور منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے اور یہ بھی

وصال اور کام حال باید کرد۔ ہمیں
 فرمودہ مرخص شدند وخصت اذند
 پس چون این مقولہ از حضرت رسالت
 صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم در گوش رسید
 بہان وقت بچشم گریان و دل بریان
 از مدینہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
 برآمدند و ہنگام معاد بنایا بساط طواف
 کعبہ و تقبیل حجر اسود مشرف بودہ
 و عنایات بزرگ از دیدار در کعبہ گرفتہ
 روانہ شدند۔ و از آن دیار مطلع انوار سندھ
 شریف ملازمت خواجہ بزرگوار دریافت
 واقباس انوار عظیمہ نمودہ لوطن
 مالوہ روئے نہاوند۔ چون حدود پنجاب
 را از قدم فیض لزوم رونق بخشیدند
 پرسان احوال با کمال حافظ
 محمود علیہ الرحمۃ الودود روح اللہ
 روح گردیدہ بر لب دریائے جہلم کما
 اشار النبی صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ
 موصوف را متحلی بجلیہ کمال و اکمال
 دریافتند۔ کہ باوجود سرعت سیر تربیت
 مردانہ از ہر ماٹیدہ فائدہ تمام و از
 ہر مقامی نعمتے نالا کلام فر اگر فتنہ بہ
 منزل مقصود واصل شدہ اند و تقریباً

فرمودند۔ کہ در او آخر سلوک بہ تجلی
 صمدی نیز متجلی گشتند۔ و آن مقامے
 ست کہ در آن جا احتیاج اکل و شرب
 از ساکب بر خیزد۔ چنانچہ در مقامات
 قدوة انکاملین۔ حضرت بدیع الدین
 بہ شاہ دار مذکورست۔ کہ در تجلی صمدی
 تا دو از وہ سال طعام نہ خوردہ اند
 لباسے کہ یکبارے پوشیدند۔ دیگر
 احتیاج شستن نمے شد پس در غلبہ
 آن حال حضرت سیدی مولائی بہ
 کلی از خوردن و اشامیدن باز ماندند
 چندانکہ حضرت خواجہ بزرگ در آن
 حالت بہ خوردن و اشامیدن اشارت
 میگردند۔ فائدہ نمے داشت تا کہ دست
 مغلوبیت ایشان در آن سال از ایام
 بمرور مشہور انخب امید آخر الامر
 حضرت خواجہ بزرگ قدس سترہ حضرت
 سیدی و مولائی رو برو طلبیدہ فرمودند
 کہ اقتدائے بر رسول صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم ست۔ آن مے باید کہ
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرد و من میکنم
 و گرنہ پیش ازین در صحبت نتوانی۔ و
 در آنوقت بدست مبارک خود لقمہ

معلوم ہوا۔ کہ آپ مقام تجلی صمدی پر
 فائز المرام ہو چکے ہیں یہ وہ مقام
 ہے کہ جہان عارف کو کھلنے پینے
 کی پرواہ نہیں رہتی۔ جیسا کہ حضرت
 شاہ بدیع الدین صاحب شاہ مدار
 کے تذکرہ میں آیا ہے کہ آپ نے
 تجلی صمدی میں بارہ سال تک کھانا
 نہیں کھایا اور جو لباس وہ پہنتے
 تھے۔ وہ میلا نہیں ہوتا تھا۔ صاحب
 موصوف حافظ صاحب کھلنے پینے
 کو بالکل چھوڑ چکے تھے اور حضرت شاہ
 صاحب ہر چند کھانے اور پینے کا اشارہ
 کرتے تھے۔ مگر آپ لا پرواہ تھے۔
 یہاں تک کہ ان کی مدت مغلوبیت تجلی
 صمدی کی اس سال میں تمام ہو چکی تھی۔
 آپ نے حافظ صاحب کی خدمت میں
 عرض کیا۔ کہ حضرت آپ کو اتباع رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم ہے جیسا
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور
 میرا بھی لفضل خدا اس پر عمل ہے۔ ورنہ
 بندہ پھر خدمت میں حاضر نہ ہوگا۔ پھر
 اپنے ہاتھ میں ایک لقمہ اٹھا کر آپ
 کے وہاں مبارک میں رکھا۔ اور ہر روز

ایک لقمہ مقرر نہ کر دیا۔ اور ہمت باطنی سے بھی توجہ کی۔ آہستہ آہستہ آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس کھانے کی وجہ سے آپ کو مقامات پر زیادہ ترقی ہوئی۔

درد بان مبارک ایشان نہاوند
یک لقمہ مقرر کردند کہ در یک روزے
بخورد و ہمت باطنی در کار کردار رفتہ
رفتہ میل بطعام پدید آمد۔ و ز آن
مقام ترقی دست داد۔

۱۲۱۳ھ میں آپ نے سفر حجاز شروع فرمایا اور ۱۲۱۹ھ میں پانچ سال کے بعد واپس تشریف لائے۔ ہمیں آپ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ کس قدر مراحل طے کرنے کے بعد آپ منزل مقصود کو پہنچے ہیں۔

یعنی ۱۱۸۰ھ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ۱۱۹۹ھ میں آپ نے پشاور کا سفر فرمایا۔ انیس سال گھر میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۱۹۹ھ سے ۱۲۰۳ھ تک عرصہ چار سال زمانہ تعلیم پشاور سے۔ ۱۲۰۳ھ سے لے کر ۱۲۰۹ھ تک تلاش شیخ کامل میں گزارے۔ ۱۲۰۹ھ سے ۱۲۱۴ھ تک آپ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ ۱۲۱۴ھ سے لے کر ۱۲۱۹ھ تک حج اور حاضری دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا قریباً ۲۳ سال کی عمر تک آپ علوم ظاہری بنی فیض یاب ہوئے اور سترہ سال تک آپ نے تکمیل روحانیت میں صرف فرمائے اور ۴۰ سال کی عمر میں آپ صاحب ارشاد ہوئے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو ۴۰ سال کے بعد موت عطا ہوتی چلی آئی ہے۔ اسی سنت اللہ کے مطابق چالیس سال کے بعد وراثت نبوت بمصدق (الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) عطا ہوئی۔

جس طرح حضور سرور کائنات کی پیدائش سے پہلے دنیا کفر و شرک، فسق و فجور سے پر ہو چکی تھی اور کعبہ کرمہ میں ۳۶۰ بت نصب ہو چکے تھے۔

کچھ اسی طرح جب آپ اپنے وطن میں تشریف لائے تو وہ زمانہ (بندہ بہادر) کا تھا جس نے ملک کو لوٹ مار سے تاخت و تاراج کر دیا تھا اور کعبۃ الہندیہ یا مدینۃ الہند سرمنڈ شریف کو غارت کر دیا تھا۔ روضہ ہائے مبارک میں گھوڑے بندھوا دیئے تھے

اور مسلمانوں کے گھروں پر پل چلوا دیئے تھے۔ مسلمان تباہ و برباد کر دیئے گئے تھے اور کفر و شرک فسق و فجور زوروں پر تھے۔

آپ کا آنا کیا تھا ایک ابر رحمت کا آنا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، آپ کا آنا اولاد اور جانثین رحمۃ اللعالمین کا آنا تھا۔ آتے ہی رسومات کفر و بدعت یکسر اٹھا دی گئیں۔ ذکر و شغل، تبیح و تہلیل کا چرچا ہونے لگا۔ مکان شریف میں پھر رونق آ گئی اور آپ نے یہاں جمعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو پہلے یہاں نہ ہوتا تھا۔ اور مسجد میں چہل پہل ہو گئی۔

زمینداروں کی مستورات ہندوں کی طرح سروں پر چونڈہ رکھا کرتی تھیں۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد یہ رسم بھی جاتی رہی۔

سلسلہ نقشبندیہ اس علاقے میں آپ کی تشریف آوری سے جاری ہوا۔ آپ منکر المزاج بہت تھے۔ اس لیے باوجود لوگوں کے پروانہ دار اس شمع کے گرد جمع ہونے کے اور درخواست کے بھی آپ داخل طریقہ نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ مرزا سنگین بیگ کی درخواست پر آپ نے اپنے پیر کی خدمت میں سفارش نامہ لکھ دیا اور خود بیعت نہ کیا۔

ایک دن مکان شریف کی مسجد میں نماز عصر کی اذان کا حکم فرمایا۔ ادھر اذان ہو رہی تھی ادھر آپ ایسے محدود بے خود ہوئے کہ کچھ ہوش نہ تھا۔ عالم بے ہوشی میں دیوانہ وار بھاگ گئے۔ دریا کی طرف جانکلے اور دریا گو طغیانی پر تھا مگر آپ اس میں کود پڑے۔ عالی مرحوم نے ٹھیک فرمایا ہے۔

مگن میں تیری نکل گئے جو نہ جھکے دیئے پر خطر سے

گئے وہ کو دآنکھ بند کر کے نہ وار دیکھا نہ پار دیکھا

پانی کا خاصہ ہے کہ آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ مگر یہ طغیانی پر آیا ہوا دریا کا پانی بھی اس آتش عشق کو بجھا نہ سکا۔ آپ دریا کے پار نکل گئے

تیسرے دن آپ مکان شریف واپس تشریف لائے۔ مکان شریف اونچی

جگہ تھہر پر آباد ہے۔ آپ تھہر کی بلندی پر چڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا، حسین علیؑ تمہیں علم ہے کہ میری شکل شیطان نہیں بن سکتا۔ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو بیعت کرو۔ مگر تم نے ان کو داخل سلسلہ نہیں کیا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حاجی صاحب تائب نہ لاکر پھر مہوش ہو گئے۔ اور زمین پر گر پڑے۔ متواتر تین دن وہیں بے ہوش پڑے۔ چوتھے دن جب آپ کو ہوش آیا تو پہلے با وضو ہو کر ان اشخاص کو بلا کر داخل طریقہ فرمایا اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ اس طرح سلسلہ بیعت کا شروع ہوا۔ اس سے پہلے آپ کسی کو بیعت نہ کرتے تھے۔ اس قسم کا جوش و خروش اکثر بزرگوں کو ہوتا رہا ہے۔ خزینہ معرفت صفحہ ۱۹۹ ساتویں ذکر میں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرفپوری کا واقعہ اسی قسم کا درج ہے کہ نماز عشاء میں بوقت سجدہ وجہ کی حالت میں تین صغیر چاند کر باہر تشریف لے گئے اور دو سو سے دن واپس تشریف لائے۔ شدت کی سردی تھی مگر آپ ساری رات قبرستان میں رہے۔

۱۲۲۵ھ میں مرزا شگبیں بیگ صاحب کی وساطت سے جن کا ذکر پہلے سفر حج میں آچکا ہے اور تفصیل آگے بیان ہوگی۔ آپ کی شادی موضع موزندہ متصل باغانوالہ جو علاقہ سرمنہ تشریف میں ہے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عالم صغیری میں یکے بعد دیگرے دو فرزند عطا فرمائے۔

صفر ۱۲۲۲ھ میں قریباً ۶۳ سال کی عمر میں جو آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبرؓ کی عمر سے مکان تشریف میں وفات پائی۔ مرزا شگبیں صاحب نے آپ کو غسل دیا اور کچی قبر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جس وقت ان کو قبر میں آنا گیا مرزا صاحب نے چہرہ سے کفن اٹھا کر آخری زیارت کی اور رو کر فرمایا حسین شاہ جس پایہ کا تو تھا تیری کسی نے قدر نہ کی۔ آپ کی لحد کے آگے لکڑی کا تختہ دیا گیا اور بند کی گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

آپ کے جانشین قیوم عالم اعلیٰ حضرت پیر امام علی شاہ صاحب ہوئے جنہوں

نے آپ کی تاریخ وفات خود تحریر فرمائی ہے جو درج ذیل ہے۔
 در ماہ صفر چو حضرت مخدومی | بنمود سفر ازیں دائرہ موہومی
 تاریخ وفات آں کامل داخل | دل گفت بگو مرشد مخدومی

۱۲۴۲ھ

حالات متعلق مرزا سنگیوں بیگ | مرزا صاحب مضافات عمر مند شریف
 ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے۔

فوج شاہی مقیم مکہ شریف میں ملازم تھے اور ایام حج میں خدمت حرمین شریفین اور
 انتظام حجاج کا کام آپ کے ذمہ تھا۔ حضرت کے حالات بوقت طواف حج
 معلوم کر کے آپ کے شیدا ہو گئے۔ مدینہ شریف میں بھی آپ نے ہر طرح کی خدمت
 کی اور داخل سلسلہ ہونے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے خط تحریر فرما کر سندھ شریف
 میں بخدمت خواجہ بزرگ روانہ کیا۔ مگر مرزا صاحب کو آپ سے خاص عقیدت
 تھی۔ اس لیے مرزا صاحب نے مرتے دم تک آپ کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت
 کی جو شادی موضع موزندہ علاقہ باغانوالہ ریاست پٹیالہ میں ہوئی وہ مرزا صاحب
 کی سعی کا نتیجہ تھی۔ مرزا صاحب نے ہی آپ کو غسل دیا اور قبر میں اتارا۔

حضرت حافظ محمود علیہ الرحمۃ | جن کے ساتھ باشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ کا تادم حیات سلسلہ ملاقات جاری
 رہا۔ ان کی تعریف اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے حاجی
 صاحب کو ان کی ملاقات کا ارشاد فرمائی۔

حافظ محمود علیہ الرحمۃ اور میاں محمد جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن ٹاہلیاں والہ
 علاقہ جہلم ہر دو صاحبان حضرت شید غلام حیدر صاحب قدس سرہ کے خلفاء ہیں
 سے ہیں۔ آپ ہر دو صاحبان سے بکمال محبت و اتحاد ملتے رہے اور قیوم عالم
 اعلیٰ حضرت پیر ام علی شاہ صاحب بھی ان ہر دو صاحبان کی زیارت سے مشرف
 ہوتے رہے۔

حالات حضرت سید حبیب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ | جن سے عجیب غریب کرامتیں

ظہور پذیر ہوئیں۔ مقامات اعلیٰ تصرفات قوی اور جذبات عالیہ کے مالک تھے۔ مجذوبوں اور محبوبوں کے سردار۔ صاحب ذوق و شوق و سکر و جذب تھے۔ جذب قوی اور نسبت مخصوص کی وجہ سے جس پر آپ ذرا نظر توجہ ڈالتے تھے۔ اُسے مقام شعور سے نکال کر بے شعوری اور بے خودی کے مرتبہ تک پہنچا دیتے۔ اس طرح پر کہ وہ حالت مغلوبیت میں دنوں نہیں مہینوں مدہوش رہتے اور کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ کرتے۔ عرصہ کے بعد اصل حالت میں آتے اور جس منزل پر اہل سلوک میں خاص خاص لوگ مدلوں کے مجاہدوں کے بعد پہنچتے آپ ایک لمحے میں وہاں تک پہنچا دیتے۔

علاقہ رہتاس، چکراہلی، جہلم میں ان کے تصرفات اور کرامتیں عام شہرت پذیر ہیں۔ آپ ملاستی رنگ میں خلقت سے چھپے رہتے۔ صحیح النسب اور کریم الظرفین سید تھے۔ علم طب میں بھی مہارت تھی۔ قصبہ رہتاس میں مطب اور عطاری کی دکان بھی کرتے تھے۔ آپ اویسی مشرب تھے اور آپ کو بلا واسطہ فیض شہنشاہ اقلیم ولایت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملا۔ اس طرح پر کہ آپ ایک دن اپنی دکان پر تشریف فرما تھے کہ ایک نورانی شخص جس کے چہرہ سے کمال عظمت اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ دکان پر آیا۔ آنے والے نے اپنی سرمگین نہ دکھوائی۔ آپ کو دیکھا۔ آنکھوں کا چار ہونا تھا کہ آپ بیہوش ہو گئے۔ اور حجاب کے پردے آپ کی آنکھوں سے اٹھ گئے۔ توحید کے اسرار منکشف ہو گئے۔ اور اوار مقدس سے آپ کا سینہ منور ہو گیا۔ اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ تھے۔ چنانچہ جب آپ سے آپ کے مرید دریافت کرتے تو آپ فرمایا کرتے۔ "حیدر غلام قنبر قنبر غلام حیدر" حقیقت میں شجرہ طریقت آپ کا لہر تھا (حیدر غلام حیدر ہے) لیکن برعایت تعظیم و ادب آپ تبرکاً حضرت قنبر کو اخذ

فیوض و برکات کا واسطہ ٹھہراتے۔

آپ باایک مخلص مرید ایک غار میں معکنت تھا۔ اس نے ایک شخص کے ہاتھ اپنے حالات تحریر کر کے ارسال خدمت والا کیے۔ قاصد نے ایسے حال میں عرصہ پیش کیا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ روٹی کے ٹکڑے پر آپ نے یہ شعر جو اباً تحریر فرما دیا۔

اندر شب شور و شر و دیدہ کشودیم دیدم کہ شب فتنہ و راز است غنودیم
در ویش نے یہ شعر پڑھا اور وہ روٹی کا ٹکڑہ کھالیا۔ لقمہ کا حلق سے نیچے ترنا تھا کہ وہ جاں بحق ہو گیا۔

اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ کہ ایک رئیس زادہ موضع تاملیاں والہ کے قرب حمار کا رہنے والا تھا۔ آپ کا منکر تھا اور آپ کے حق میں کلمات ناسزا وار کہا کرتا تھا۔ اس کے باپ کو جب معلوم ہوا تو اس نے سختی سے اس کو منع کیا۔ کہ اہل اللہ کے انکار کا انجام خسر الدنیا والاخر کے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا۔ مگر وہ بجائے تائب ہونے کے اور بد اعتقاد ہو گیا۔ باپ محبت پدیری کی وجہ سے اس کو حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ اور غدر خواہی کے بعد لڑکے کے راہ راست پر آنے کے لیے درخواست کی۔ آپ جیسا کہ اہل ملامت کا طریقہ ہے ایک صراحی زنگدار پانی کی جو شراب معلوم ہوتی تھی اپنے پاس رکھا کرتے تھے اس رئیس کی درخواست پر اس کے لڑکے پر نظر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ وہ صراحی اٹھا لاؤ۔ لڑکے نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اٹھ کر صراحی پکڑی۔ صراحی کا ہاتھ میں آنا تھا کہ اس کی سب بد اعتقادی رفع ہو گئی۔ توبہ و استغفار کرتا ہوا قدمبوس ہوا۔ اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو گیا۔

یوں تو آپ بالعموم مغلوب الحال رہا کرتے تھے۔ مگر بعض اوقات آپ پر ایسی حالت وارد ہوتی آپ چالیس چالیس دن تک حالت سکر میں رہتے اور کچھ نہ کھاتے نہ پیتے اور اس حالت میں آپ کی آتش شوق و ذوق اس قدر بھڑکتی

کہ چلہ کی سردیوں میں پانی کی مشکیں متواتر آپ پر ڈالتے اور پانی ڈالنے میں ذرا سا وقفہ بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ پھر جب افاقہ ہوتا تو رفتہ رفتہ کچھ خفیف غذا تناول فرماتے۔

ایک دفعہ ایک ماہ آپ پر ایسی حالت طاری رہی۔ جب ذرا افاقہ ہوا آپ کے صاحبزادہ سید غلام حسین شاہ آپ کے لیے کھانا لائے اور بہت عجز کے ساتھ التجا کی کہ آپ کچھ تناول فرمائیں۔ آپ نے صرف ایک انگلی لگا کر اس کھانے کو چکھا۔ اور کھانے سے دست کش ہو کر فرمایا کہ اس کھانے کو زمین میں دفن کر دو۔ چنانچہ یہ تعمیل حکم وہ کھانا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک نے عرض کیا کہ اس کھانے کو کیوں دفن کرایا گیا۔ فرمایا اگر اس کھانے کا کوئی لقمہ کوئی کھا لیتا تو منصور کی طرح انا الحق کہتا پھرتا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادہ غلام حسن شاہ صاحب نے جس انگشت شہادت سے اس برتن کو صاف کر کے دفن کیا تھا۔ ترگا وہ انگلی چاٹ لی۔ صرف انا کرنے سے اس طعام کے ذائقہ کا یہ اثر ہوا کہ آپ بیہوش ہو کر ہر طرف دوڑتے پھرتے رہے۔ مدت کے بعد آپ کی حالت درست ہوئی مگر اس کھانے کا اثر ہمیشہ ان کو محسوس ہوتا رہا۔

اکثر بڑے بڑے اولیا آپ کے معتقد تھے اور آپ سے اجازت لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ مگر حافظ محمود اور میاں محمد حنی صاحب آپ کے خاصان میں سے تھے۔ قیوم عالم اعلیٰ حضرت پیر امام علی شاہ اکثر ان ہر سہ اصحاب کا ذکر اپنے مجالس خاص میں فرمایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ آپ ڈوم شریف میں بعارضہ ضیق النفس بیمار ہو گئے۔ امید حیات منقطع ہو گئی۔ ایک مجذوبہ دربار میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب وہ جھاڑو دیتی ہوئی آئی۔ آپ نے فرمایا۔ مائی صاحب دعا کرو۔ میرا خاتمہ بالخیر ہو جاوے۔ مائی ہنس کر بولی۔ بیٹا! اجے تے پرونا اونا ای پتر

باغ لگسی توں باغ دا پھل کھاسیں۔ مرزا صاحب موجود تھے کہنے لگے مائی صاحب یہ پرنا نہ کا کونسا موقع ہے۔ یہ تو ساٹھ سال کے معامہ ہوتے ہیں اور قریب المرگ ہیں۔ مائی کہنے لگی۔ سائیں جیوے باغ لگسی۔ باغ لگسی۔ چنانچہ آپ کا باغ اب تک بفضلہ ہر اہل سیر اور لاکھوں اللہ کے بندے اس کے شیریں پھلوں سے سیر ہو رہے ہیں۔ صلیبی اولاد بھی آپ کی موجود ہے اور کلانور میں سجادہ نشین صاحب آپ کی اولاد سے ہیں۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کا فیض جاری ہے گا۔ آپ کی شادی کے متعلق ایک اور بھی دلچسپ واقعہ منقول ہے کہ جب آپ مکان شریف تشریف لائے تو آپ کے دولت سرے کے بچے محلہ میں ایک لڑکی مسما ت حیات بی بی تھی۔ ان کے ہاں نکاح کا پیغام آپ کے لیے بھیجا گیا۔ تو لڑکی کا والد بہت ناراض ہوا اور بڑے غصہ سے اس نے کہا کہ یہ بوڑھا ہی ہمارے واسطے رہ گیا ہے۔ آپ نے سنا تو منس کر فرمایا کہ یہ بوڑھا تو کسی نہ کسی جگہ نکاح کر لے گا مگر تمہاری لڑکی کو کوئی بوڑھا بھی نہ ملے گا۔ خدا کی شان وہ لڑکی ساٹھ سال تک زندہ رہی مگر اس کا کہیں نکاح نہ ہو سکا۔

حضرت میر جعفر آپ کے پوتے فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ باغانوالہ میں گیا۔ ایک ضعیف العمر شخص نے اثنائے گفتگو میں بیان کیا کہ اس کے والد کہتے تھے کہ باغانوالہ کے باہر ایک مسجد غیر آباد ہے۔ عشاء کے بعد حضرت حاجی صاحب اور مرزا صاحب دونوں اس مسجد میں چلے جاتے تھے۔ میرا گھر اس مسجد کے راستہ میں تھا۔ میں ابھر خور و سال تھا مگر مجھے خیال آتا کہ یہ دونوں شخص اس وقت مسجد میں جا کر کیا کرتے ہیں۔ ایک ات میں پہلے ہی جا کر اس مسجد میں جا چھپتا تاکہ دیکھوں کہ یہاں آکر یہ کیا کرتے ہیں۔ دونوں صاحب اپنے معمول کے مطابق مسجد میں تشریف لائے۔ اور خاموش بیٹھ گئے۔ اس وقت مجھے یہ تو معلوم نہ تھا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ مگر اب سمجھا ہوں کہ دونوں صاحب نصف رات تک مراقبہ کرتے رہے۔ جب رات ڈھل گئی تو دونوں صاحب مسجد سے باہر نکل کر مسجد کے صحن میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ایک برقعہ پوش تشریف

لائے اور یہ تینوں مسجدیں آگئے۔ ان کی تشریف آوری سے تمام مسجد روشن ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر برقعہ پوش صاحب نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے۔ ہر دو صاحبان نے فرمایا معلوم نہیں کوئی مسافر ہوگا۔ تہجد کے وقت تک وہ تشریف فرما رہے۔ اور مسجد بقیعہ نور بنی رہی۔ تینوں نے مل کر نماز پڑھی اور بیٹھے رہے۔ صبح صادق کے قریب برقعہ پوش باہر تشریف لے گئے۔ یہ دونوں بھی صحن تک ان کے ساتھ تھے۔ مگر میرے دیکھتے ہی برقعہ پوش غائب ہو گئے۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ برقعہ پوش کون تھے۔

احمد شاہ، امیر شاہ، دوسرے مکان تشریف کے تھے۔ بڑے کا ایک ٹھنڈا ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایندھن کے لیے منگایا لیکن احمد شاہ اس کو اٹھا کر لے گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میاں ہم نے اس کو ایندھن کے لیے منگایا تھا۔ احمد شاہ نے غصہ سے کہا۔ میاں بیٹھا رہ۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں تو بیٹھا ہی رہوں گا مگر تم اٹھ جاؤ گے۔ چنانچہ احمد شاہ بعارضہ ذہل بھکنڈرا اور امیر شاہ بعارضہ تپ دق مر گیا۔

امیر زاہد صاحب کے والد امیر حمزہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد اور بڑے بھائی ایک ہی سال کے اندر فوت ہو گئے اور میں بارہ سال کا رہ گیا۔ میری والدہ مجھے سمراہ لے کر حضرت حاجی صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ حضرت یہ لڑکا یتیم رہ گیا ہے۔ نہ اس کا کوئی نگران حال ہے اور نہ یہ پڑھتا ہے۔ اور بعارضہ ضعف جگر بیمار بھی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا فرمادیں۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور دعا فرمائی اور فرمایا کہ بی بی اس کو لے جاؤ۔ یہ لڑکا بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ خلقت کو اس سے بہت نفع ہوگا اور اس کی اولاد بھی باعزت اور فارغ البال ہوگی۔ چند دنوں میں آپ کی دعا سے میں تندرست ہو گیا اور خلقت کا رجوع بھی ہو گیا اور فارغ البال بھی اب تک ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔

شیخ جھنڈے خاں دھرم کوئی نے جو اکثر آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے ایک

دن عرض کی کہ حضرت مجھے دو تکلیفیں ہیں۔ نہ اولاد سے نہ رزق۔ یعنی رزق کی بھی تنگی سے اور اولاد بھی نہیں۔ دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا۔ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی بھی فراخی دے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا کہ دشمن کوٹ تمہاری اولاد سے آباد ہوگا۔

چنانچہ آپ کی دعا سے جھڑے خاں کو دونوں نعمتیں عطا ہوئیں۔ اب تک آپ کی اولاد سے اکثر اشخاص ممتاز عہدوں پر ممتاز ہیں۔ دھرم کوٹ میں آپ کی اولاد کثیر اور متمول ہے۔

ایک دفعہ حافظ محمود رحمت اللہ علیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری ہوئی۔ تو آپ نے عرض کی کہ حضور حسین شاہ کا کیا حال ہے۔ ارشاد فرمایا۔ عزیز بہت اچھا ہے۔ لیکن عشاء کی نماز بسبب سکر کے دیر سے ادا کرتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے نماز عشاء اول وقت پڑھنی شروع کی۔ چنانچہ اس دن سے اس خاندان میں نماز عشاء اول وقت پڑھی جاتی ہے۔

قبلہ عالم حضرت حافظ حاجی سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قذافی کے والد سید کریم شاہ صاحب جو کہ آپ کے نواسہ بھی تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابھی خورد سال تھا اور آپ کے ہمراہ سمو وال شریف جا رہا ہے جبکہ آپ حاجی محمود علیہ الرحمۃ (جن کا ذکر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کے وقت آچکے) کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاؤں میں اس وقت جوتی نہ تھی۔ میرا ننگے پاؤں چلنا آپ پر شاق گزارا۔ فرمایا اگر تم کو جوتی مل جاوے تو پھر چلنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ بابا حاجی اگر جوتی مل جاوے (تے میں چھالوں مار دو جاواں) رات سیانکوٹ کی ایک مسجد میں بسر کی۔ صبح ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر جو بجا رہنہ خنازیر بیمار تھا آئی اور رو کر عرض کیا کہ حکیموں اور ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہے کہ اب یہ لڑکا قابل علاج نہیں۔ میرا یہ ایک ہی لڑکا ہے جو یتیم رہ گیا ہے۔ ماتا بڑی بلا ہے۔ یہ سن کر کہ مسجد میں کوئی لڑکا ملے گا تو لے لیں۔ سیرت امیر ملت وغیرہ

درویش آئے ہوئے ہیں۔ حاضر ہوئی ہوں۔ اس آخری اُمید کے ساتھ کہ دنیا کے دروازے
مجھ پر بند ہو چکے ہیں۔ شاید آپ کی دعا سے میرا لڑکا بیچ جاوے۔ آپ نے فرمایا۔
مائی اگر یہ لڑکا اچھا ہو جاوے تو کیا دوگی۔ عورت نے عرض کیا کہ یہ تنہا گھماؤں راضی
کا مالک ہے۔ نصف زمین آپ کی نذر کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا۔ فقیر کو اس کی کچھ
ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکے کے لیے ایک جوتا لا دو۔ عورت نے جوتوں کا ایک
گٹھا پیش کیا۔ آپ نے مجھے فرمایا کریم شاہ پسند کر لے۔ میں نے ایک جوتا اپنی حسب
پسند لے لیا۔ آپ نے میرے روبرو اپنی لب مبارک لڑکے کے خنازیر پر لگا دی۔
میرے دیکھتے دیکھتے لڑکا تندرست ہو گیا۔ کچھ لب مبارک ایک پیپل کے پتے پر
عورت کو دے دیا کہ پھر لگا دینا۔

تیسرے دن سم سمو وال تشریف پہنچے۔ حافظ صاحب بڑی تو اضع پیش آئے
اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رکھی۔ میرے دل میں بچوں کی طرح خیال آیا کہ چند روز
یہاں ٹھہریں گے۔ عمدہ لذیذ کھانے ضیافت میں ملا کریں گے۔ لیکن دوسری صبح آپ نے
فرمایا کہ جس مہمان کو زیادہ دن ٹھہرانا منظور ہو۔ اس کے لیے اس قدر تکلیف نہیں
کیا کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو زیادہ دن ٹھہرانا منظور نہیں۔ اس
لیے آپ صبح واپس تشریف لے آئے۔ واپسی پر سیالکوٹ میں دوسری طرف
(یعنی اس عورت کا محلہ چھوڑ کر) رات بسر فرمائی۔ راستے میں آپ کو مرض
ضیق النفس کا دورہ ہو گیا۔ فرمایا۔ کریم شاہ کسی گھر سے برتن لاؤ۔ تو تھوڑا سا
پوست بھگو کر استعمال کیا جاوے۔ میں نے قریب کے گھر سے پوست بھگونے
کے لیے برتن طلب کیا۔ گھر والی مائی نے جواب دیا۔ میرے برتن حرام کھانے
کے لیے رہ گئے ہیں۔ میں نے واپس آکر عورت کا بلفظہ جواب عرض کر دیا۔ فرمایا
عورت سچ کہتی ہے۔ جو چیز پلید ہو۔ اس کو پلید ہی کہتے ہیں۔ راستہ میں ہماری
کا دورہ زیادہ ہو گیا۔ فرمایا۔ کریم شاہ میں پیدل نہیں چل سکتا۔ اگر تم علی پور جا کر
ڈولی لے آؤ تو علی پور تو پہنچ جاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہاں آرام فرماویں۔

میں ڈولی لانا ہوں۔ میں دوسرے دن ڈولی لے کر جا رہا تھا، دیکھا کہ آپ پیدل تشریف لارہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فقیر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کریم شاہ مجھے آرام ہو گیا تھا۔ اس لیے وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کریم شاہ اللہ تعالیٰ تجھے بہت عزت بخشے گا اور تمہاری اولاد کو بھی بہت عروج عطا ہوگا۔ قبلہ حافظ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ مجھ پر جو خدا تعالیٰ کا اس قدر فضل ہے یہ آپ کی دعا کا ثمرہ ہے۔

ایک دفعہ چوہدری ولد دار نے عرض کیا کہ حضور جب میں سر جاؤں تو مجھے اپنے قدموں میں جگہ دینا۔ فرمایا۔ اگر آپ میں نور ایمان ہے تو جہاں کیے جاؤ گے وہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ اور اگر تو نور ایمان سے بہرہ ور نہ ہوگا تو پھر تجھے میرے سینے میں دفن کرنا بھی نفع نہ دے گا۔

آپ کے جد امجد حضرت شاہ محمد صاحب گو طریقیہ قادریہ اور نقشبندیہ دونوں میں ممتاز تھے مگر نسبت نقشبندیہ کا چرچا مکان شریف میں آپ کی ذات سے شروع ہوا۔ درود شریف کے پڑھنے کا معمول بھی آپ کے وقت سے ہوا ہے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے باہمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی عبادات | آپ نماز عشا کی اول وقت پڑھا کرتے تھے اور اکثر وتر بھی سمراہ نماز عشا داوا فرمالتے۔ تہجد کی بالعموم بارہ رکعتیں پڑھتے کبھی کبھی آٹھ بھی پڑھتے۔ تہجد میں آپ اکثر بعد سورہ فاتحہ سورہ یسین سر رکعت میں پڑھتے۔ اور فرمایا کرتے کہ سورہ یسین کی قرأت میں نفع عظیم اور بے شمار نایاب پائے جاتے ہیں کبھی کبھی سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ منزل، سورہ واقعہ اور چاروں قل شریف پڑھا کرتے۔

بعد سلام مرتب اتی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لک سات بار پڑھتے۔ بعد نماز تہجد کبھی بطریق سنت استراحت فرماتے اور قبل نماز صبح بیدار ہو جلتے اور باحیث نماز فجر ادا فرماتے۔ بعد نماز فجر حلقہ ذکر ہوتا اور تابلندی آفتاب مراقبہ میں مشغول و

مستغرق رہتے۔ پھر نماز اشراق ادا فرماتے۔ اور حفظ قرآن میں شغول ہو جاتے۔
آخر عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کرنا شروع فرمایا اور پندرہ سو سال
حفظ کیے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ عالم ضعیفی میں حفظ قرآن کا شغل آپ کے
واصل باللہ ہونے کی دلیل ہے۔

آپ بہت کم گو تھے، کبھی زیادہ سنتے نہ تھے۔ صرف متبسم ہو کر بعض دفعہ کلام
فرماتے۔ آپ کا قدمبارک لمبا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ رنگ آپ کا
گندمی ذرا ملاحظت آمیز تھا۔ از حسن طبع خود شور سے بجاں کر دی۔ کامصرع
آپ کے لیے موزوں ہے۔

آپ گھر کا کام کاج خود کر لیتے۔ کسی کو تکلیف دینا گوارا نہ فرماتے۔ کسی کام
کے کرنے کو عار نہ سمجھتے تھے۔ شہر سے سودا خود لادیتے۔

فرمایا کرتے تھے:

آپ کے ملفوظات

(۱) اللہ اللہ کیا باغ جہاں میں تونے لگایا ہے۔

(۲) فرماتے۔ دنیا مثل سائے کے ہے۔ اگر انسان اس کے پیچھے دوڑے تو یہ
آگے دوڑتی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر بھاگے تو یہ پیچھے دوڑتی ہے۔

(۳) انسان کو واجب ہے کہ اپنے سب کام تقدیر کے حوالے کر دے۔
کر کاروبار اپنے تقدیر کے حوالے نزدیک عاقلوں کے بدیر، تو یہ ہے

(۴) عبادت میں ریاء نہ کرے۔

(۵) نام خدا بتانے میں کبھی کسی سے دعا فریب نہ کرے۔

(۶) مانگ کر کھائے، ڈھول بجا کر مانگ لے۔ مگر نام خدا تعلق میں فریب نہ کرے۔

(۷) جس کام کی خبر نہ ہو وہ سرگزنہ کرے۔ ورنہ شرمسار ہونا پڑے گا۔

(۸) وہ انسان کتنا بے نصیب ہے۔ جس کی عاقبت اچھی نہ ہو۔

۱۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلاوجہ مانگنا شروع کر دے اور گداگر بن جائے یا ڈھول بجا کر ناجائز کمائی
کرے۔ بلکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام اور دین میں فریب نہ کرے۔ ۱۲

(ناشر)

(۹) جب کوئی طالبِ مولا کسی بزرگ کے پاس آدے۔ تو اس کو پہلے سمجھا دینا چاہیے کہ اللہ کے نام میں بہت مشکلیں پیش آیا کرتی ہیں سمجھ سوچ کر قدم رکھ۔
(۱۰) فرماتے کہ خلقِ خدا جی کر مرتی ہے۔ یعنی لوگ جیتے جی مرنے جاتے ہیں اور مرنے اور دنیا سے جاتے ہیں۔

(۱۱) پہلے سنگِ بے نمک لیسیدن یعنی الونی سل چاٹنا ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ نامِ خدا میں کیا مزہ ہے۔

(۱۲) اسرافِ موجب تنگی ہوتا ہے۔

(۱۳) اپنے حال کا ذکر اپنے پیر کے سوا کسی سے بیان کرنا خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔
(۱۴) فرماتے کہ یہ دریا بے کنارہ بلا کشتی بلا ساحل کے ہے۔ بحرِ عنایتِ مالکِ حقیقی کی عبور ہونا مشکل ہے۔

(۱۵) دولت مند اور دنیا دار کی محبت زلوں ہے۔ ان سے بہت کم ملنا چاہیے۔
(۱۶) طالبِ مولے کا فرض ہے کہ بعد طے کرنے سلوک کے پھر اپنا نکاح کرے۔
(۱۷) جوانی میں انسان جو کام چاہے کر سکتا ہے۔ بڑھاپا انسان کو خود ہی عاجز اور حقیر کر دیتا ہے۔

(۱۸) نماز میں اپنا خیال مالکِ حقیقی کی طرف لگانا چاہیے۔ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ورنہ خیال کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

(۱۹) اکثر آپ امام جعفر صادق کے اقوال نقل فرمایا کرتے۔

(۱) دودغ گو کو سروت نہیں ہوتی (۲) حاسد کو راحت نہیں ملتی۔ (۳) بدخلق کو سرداری نہیں ملتی۔

(۲۰) انسان کو چاہیے کہ مقسوم پر راضی رہے۔

خداوندِ زال بندہ خورِ سند نیست کہ راضی بہ قسم خداوند نیست

(۲۱) فاجر سے صحبت نہ رکھو۔ ورنہ تم پر بھی فحورِ غالب ہو جاوے گا۔

(۲۲) اپنے معاملات میں ایسے شخص سے مشورہ لو جس کے دل میں خوفِ خدا ہو۔

(۲۳) فرماتے۔ جو شخص چلے کہ اس کی عزت بلاذات و قبیلے کے ہو اور ہیبت بلا حکومت کے ہو گناہ کرنا چھوڑ دے۔

آپ کا مزار مبارک رتھ چھتر عرف مکان شریف میں مسجد کے مشرقی طرف واقع ہے۔ چونکہ مسجد اونچی جگہ ہے اور مزار مبارک نشیب میں ہے اس لیے آپ اس نسبت سے بھجور والے مشہور ہیں۔

ابستار میں کچی قبر میں آپ کو دفن کیا گیا اور لحد کے آگے لکڑی کا تختہ دیا گیا۔ پھر آپ کے عاشق صادق اور خلیفہ حضرت بدھن شاہ صاحب نے جن کے علیحدہ حالات درج ہیں، آپ کا مزار نختہ تیار کرایا۔ حضرت بدھن شاہ صاحب کا ارادہ مزار مبارک کو بہت بلند کرنے کا تھا۔ مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا اور موت نے ان کو مہلت نہ دی۔ بوجہ مزار نشیب میں بصورت بھورہ واقع ہونے کے مزار مبارک کے اندر روشنی کم جاتی تھی۔ اس لیے وہ خستہ ہو گیا اور کلر لگ گیا۔ فرش بھی خراب ہو گیا۔ دن بدن حالت خراب ہونے لگی۔

بالآخر ۱۹۲۸ء میں سجادہ نشین صاحب میر منظر قوم صاحب کی تحریک و سعی سے بامداد مقبول احمد شیخ ساکن دھرم کوٹ یکے از اولاد حضرت سے خان جن کے حق میں حضرت نے دعا فرمائی تھی اور فتح اللہ خاں صاحب انجینئر و رئیس لائل پور نے مزار مبارک کی از سر نو مرمت کرائی۔ اور اب یہ مزار قابل دید ہے۔ اس بھورے میں اور بھی مزارات واقع ہیں۔ زائرین کی واقفیت کے لیے ان کی تشریح درج کی جاتی ہے۔ شمال مغربی کونہ میں ذرا بلند مزار اہلیہ میر لطف اللہ صاحب کا ہے۔

شمال مشرقی کونہ میں آپ کے بونے میر مصطفیٰ صاحب کا مزار ہے۔ اور عین مشرق کی طرف اعلیٰ حضرت پیر اہم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی کا مزار ہے۔ جنوب مشرقی کونہ میں میر مصطفیٰ صاحب کی صاحبزادی اور جنوب مغربی کونہ میں سید علی مرتضیٰ صاحب کی اہلیہ کا مزار ہے اور اہلیہ سید علی مرتضیٰ صاحب کی ہمیشہ کا مزار ہے۔

اپ کی خصوصیات | (۱) آپ کی پیدائش کی خوشخبری قریبا ساڑھے تین سو سال

آپ کی پیدائش سے پہلے خود حضور سرور کائنات منجبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان شریف کے مورث اعلیٰ حضرت دانیال پوری۔

(۲) دانہ انگور عطا فرماتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی اس کا ظہور لوجہ اتم دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کے فیض سے جے پور، الور، دہلی، بیکانیر، کابل، بدخشاں اور مدینہ منورہ تک کے لوگ آپ کی شراب معرفت کے متوالے ہو گئے۔

(۳) آپ کو واقعہ میں شمع سے تشبیہ دی گئی تھی۔ جس کی صنوفشانی سے اطراف و اکناف عالم منور ہو گئے۔

(۴) سلسلہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے پشوا خواجہ بزرگ حضرت حاجی احمد صاحب کو حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و تحیات نے آپ کی تکمیل روحانی کے لیے خاص توجہ دلائی۔

(۵) حج اور زیارت روضہ مقدسہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ طلبی فرما کر بلایا۔

(۶) زہے نصیب اس تیرہ خاک کے، اور اس خطہ کفرستان کے، جہاں حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ نے خود اس مشعل نورانی کو بھیجا۔ جس کے انوار انشا اللہ قیامت تک صنوفشاں رہیں گے۔

(۷) آپ کے دامن فیض سے دو بہت بلند اقبال شہنشاہان اقلیم ولایت یعنی اعلیٰ حضرت پیر امام علی شاہ صاحب قیوم زمانہ اور حضرت بڈھن شاہ کاہن پوری پیدا ہوئے۔ دونوں آپ کے خلیفہ ہیں۔

(۸) آپ کو ۴۰ سال کی عمر میں باتباع عطلے نبوت کمال حاصل ہوا۔ بمصداق
الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الرُّسُلِ

(۹) آپ کا ۴۰ سال کی عمر میں وصال ہوا۔ جو آپ کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔

(۱۰) آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانہ انکور کا اثر ظاہر ہوا کہ خاندان نقشبندیہ میں کسی کو ایسی بے خوری و مستی نصیب نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ کا تخلص سرتختا۔

(۱۱) آپ کے جانشین قیوم عالم اعلیٰ حضرت پیرام علی شاہ صاحب کی بشارت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بشارت کے ساتھ دی۔

(۱۲) گو آپ پر عالم مستی رہا۔ مگر آپ کی اولاد صلیبی اور روحانی بہت پابند شریعت حقہ رہی۔ خصوصیات اور بھی ہیں مگر دوازدہ اماموں کی تعداد پران کو ختم کیا گیا۔

آپ کا سلسلہ طریقت سات واسطوں سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ہرندی سے ملتا ہے۔

(۱) حضرت مجدد الف ثانی ہرندی رحمۃ اللہ علیہ قیوم اول

(۲) حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ قیوم ثانی

(۳) حضرت خواجہ عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

(۴) حضرت خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ

(۵) حضرت خواجہ محمد خلیف صاحب پارسا رحمۃ اللہ علیہ

(۶) حضرت خواجہ شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

(۷) حضرت خواجہ محمد زمانہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

(۸) حضرت خواجہ حاجی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

(۹) حضرت سید حاجی شاہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اور دونوں خلفائے اعظم جن کا ذکر اوپر آچکا ہے کے علاوہ پیر بخش بگڑا

دصرم کوٹ۔ محمد شاہ صاحب مکان شریف۔ سید صدر الدین صاحب اور رحمت علی شاہ

میاں شاد سے شاہ صاحب ساکن مکان شریف بھی داخل سلسلہ تھے۔

گو آپ نے اپنی زندگی میں بہت کم اشخاص کو داخل سلسلہ فرمایا اور پامیٹ

لباس میں اپنے آپ کو چھپلے رکھا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے

نہ از مبارکت سے لوگ بہت فیض یاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ میاں شیر محمد صاحب

نوٹ
ان حضرات کے
حالات چونکہ عام
کتابوں میں ملتے ہیں
اور یہاں صرف حالات
مکان شریف کا لکھنا
مقصود ہے اس لیے
انہیں یہاں نہیں لکھا گیا۔

شرقی قوری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ فیض آپ سے ملا ہے۔
 و خزینہ معرفت، میں حکیم احمد علی صاحب تصوری نے اپنا واقعہ مفصل بیان کیا ہے
 کہ میاں صاحب مدوح شرقی نے مجھے مکان شریف بلوا کر نماز ظہر کے بعد جبکہ
 بھورہ شریف میں اور کوئی نہ تھا۔ دروازہ بند کر کے آپ کے مرقہ مبارک کے غلاف
 کا کنارہ تھام کر توجہ فرمائی اور فرمایا یا حضرت اس کو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اور زو
 سے نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔ میں بے ہوش ہو گیا اور حالت بیہوشی میں جو کیفیت مجھ پر وارد
 ہوئی وہ زبان و قلم کی طاقت بیان سے باہر ہے۔

نماز شام کے وقت مجھے ہوشیار کیا گیا۔ لیکن میں جب تک مکان شریف میں
 رہا۔ مجھ پر وہی کیفیت رہی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لوگوں کی باتیں میں سمجھ
 نہ سکتا تھا۔

قیوم العالم پیر امام علی شاہ صاحب اور حضرت سید صادق علی شاہ صاحب آپ
 سے ہر امر میں دریافت فرمایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ قیوم العالم حضرت امام علی شاہ صاحب اپنے صاحبزادہ سید صادق علی
 شاہ صاحب پر کچھ ناراض تھے۔ قیوم العالم کے حضور میں عرض کرنے کی جرأت کسی
 کو نہ ہو سکتی تھی۔ چند خلفاء کو درویشوں کے ذریعہ صاحبزادہ صاحب نے عرض کرایا۔
 مگر آپ کی ناراضگی رفع نہ ہوئی۔ چونکہ صاحبزادہ صاحب اس معاملہ میں بے تصور
 تھے۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت
 اگر کسی شخص کا باپ اپنے لڑکے پر ناخوش ہو تو دین دنیا میں اس کا ٹھکانا نہیں رہتا
 اور قیوم العالم میرے باپ بھی ہیں اور مرشد بھی اور قیوم زمانہ بھی۔ ان کی ناراضگی
 کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو علم ہے کہ میں محض بے تصور ہوں۔ گرمیوں
 کے دن اور دوپہر کا وقت تھا کہ قیوم العالم تنہا حضرت حاجی صاحب کے مزار
 پر پہنچے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکل کر صاحبزادہ صاحب کو بلوا کر فرمایا کہ تم نے حاجی صاحب
 سے کیا عرض کیا ہے۔

صاحبزادہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر جناب کو یہ علم ہے کہ میں نے وہاں عرض کیا ہے تو جو کچھ عرض کیا ہے وہ بھی معلوم ہوگا۔

فرمایا۔ تم بڑی درگاہ میں پہنچے ہو۔ اس لیے ہم نے معاف کیا۔
میں نے صرف دو واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ورنہ سینکڑوں واقعات آپ کے مزار مبارک سے فیض یاب ہونے کے ہیں۔ اکثر بندگان خدا عرض کر کے جواب سنتے ہیں۔ یہ فیض انشاء اللہ العزیز قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی تحریر کا نمونہ تراغ شامل ہے۔

ذکر مطلع شہموس ولایت، مصدر فیوض عنایت، طیار افلاک، سیار صحرائے
کمال، مرجع طلاب حق، مشاہد انوار مطلق، ادب شانی، حضرت دوام حضور
حضرت بدھن شاہ صاحب کلاوری رحمۃ اللہ علیہ

آپ موضع چھیاری میں جہاں حضرت شاہ رشید صاحب کا مزار ہے
بزمانہ حکومت مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہوئے۔ آپ خاندان سادات چشتی ترمذی
سے ہیں۔ آپ مادر زاد ولی تھے۔ فرمایا کرتے۔ میری پیدائش کے وقت دائی کسی
اوزار کی تلاشیں کر رہی تھی اور وہ چکی کے نیچے تھا۔ میں بتلانا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔
سادات چھیاری سب کے سب شیعہ ہیں۔ آپ خور و سال تھے کہ آپ کے والد
کا ٹخنہ اتر گیا۔ اور ان کو سخت تکلیف تھی۔ آپ نے فرمایا۔ امیر معادیہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان کا نام آپ نے بے ادبی سے لیا ہے۔ اس لیے تکلیف
ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا لب مبارک لگا دیا۔ اور شفا ہو گئی۔ آپ کی والدہ بہت
بزرگ تھیں۔ آپ بھی ان کا بے حد ادب کرتے تھے۔

والدہ ضعیف ہوئیں تو آپ رات بھر نالہ کرن پر مصروف عبادت رہتے۔ صبح
حاضر ہو کر والدہ کی جوتیاں اپنی ریش مبارک سے صاف فرما کر ان کے آگے رکھتے اور
مصیبت پر بھٹا کر پھر باہر تشریف لے جاتے۔

والدہ صاحبہ منع فرماتیں۔ جوتیاں چھپا رکھتیں۔ مگر آپ تلاش فرما کر اسی طرح
ریش مبارک سے صاف کر کے پیش کرتے۔ تا دمِ زیست آپ کا یہی معمول رہا۔
بچپن میں بھی آپ کبھی لڑکوں سے نہ کھیلتے تھے۔ ابتدا ہی میں آپ کی طبیعت میں
درویشوں کی محبت کا اشتیاق تھا۔ آپ کی طبیعت ریاضت اور عبادت کی طرف
مائل تھی۔ ہوش سنبھالا تو صحبت فقر و صلحا میں رہنا شروع کیا اور اپنا اکثر وقت عبادت

الہی میں گزارتے۔ آپ کے ملنے والے آپ کو بالعموم مسجد میں پاتے۔

بیعت اور مکان شریف سے تعلق | ایک رات آپ موضع چھیاری کی مسجد میں بعد فراغت نماز عشاء لشرف

فرماتے تھے۔ تذکرہ صوفیائے متقدمین شروع ہو گیا۔ حاضرین نے بالاتفاق بزرگان سلف کی تعریف فرمائی۔ خصوصاً حضرت حسن رسول نما کے کمال کا تذکرہ ہوتا رہا۔

حاضرین میں حکیم نتھوچی (جو حضرت حاجی شاہ حسین صاحب "بھوسے والے" کی صحبت سے فیض یاب ہو چکے تھے موجود تھے۔ محبت شیخ سے جوش یہ کہہ کر ڈلنے لگے کہ کمالات سلف کب تک بیان کرتے رہو گے ذرا بزرگان وقت کے حالات بھی سنو اور یہ شعر پڑھا ہے

تو تانا کے گور مرداں را پرستی نگر دور کار مرداں گور رستی

اور اس تقریب سے حضرت حاجی صاحب کا ذکر شروع کر دیا۔ اور فرمایا کہ یہاں

سے قریب دریائے راوی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں ترڑ چھتر (مکان شریف)

ہے۔ وہاں ایک بزرگ صاحب کمال خاندان نقشبندیہ مجددیہ سے ہیں۔ جن کی ایک نظر

کیمیا اثر طالبان خدا کو مس خامسے کندن بنا دیتی ہے۔ ان کے اونے مرید جس وقت

چاہیں حضرت سر در کائنات علیہ افضل التحیات کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہو

ہو جاتے ہیں۔ غرض آپ کے حالات سن کر سامعین پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ خود

حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

ادھر حضرت بڈھن شاہ صاحب "ہرچہ از دل خیزد بہ دل ریزد" کی تاثیر سے

بے خود ہو رہے تھے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد | بسا کین دولت از گفتار خیزد

در آید جلوہ حسن از در گوش | زجاں آرام بر باید ز دل ہوش

فرمایا۔ حکیم صاحب تم نے ان کی زیارت کی ہے یا صرف شنید ہے۔ حکیم صاحب

نے کہا کہ میں آج وہیں سے آ رہا ہوں۔ کیا کہوں وہ ایک دریائے رحمت جوش زن ہے۔

جو اثر میں نے ان کی صحبت میں دیکھا ہے۔ وہ عمر بھر کہیں نہیں دیکھا۔ اور جو کچھ ان سے سنا وہ کہیں نہیں سنا۔

آپ سُن کر بے تاب ہو گئے اور ساری رات اضطراب و حیرانی میں گزری ذرا آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب مسجد میں تشریف فرما ہیں اور تلاوت قرآن شریف فرما رہے ہیں۔ اور میں دست بستہ اُن کے سامنے لھڑا ہوں۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ آپ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا۔ بڑھن شاہ گھبراؤ نہیں۔ ہم نے تمہیں قبول کیا۔ میں یہ سن کر بے ہوش ہو گیا اور میری چھین نکلا گئی۔ نیرے پاس کے سونے والے گھبرا کر اٹھے اور مجھے بیدار کیا اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے ٹال دیا اور کہا کہ کہیں میرا ہاتھ سینے پر آ گیا ہوگا۔

صبح اٹھا تو سخت بے قرار تھا۔ تمام دن حالتِ اضطراب میں دعائیں مانگتا رہا۔ دوسری رات پھر مجھے زیارت ہوئی اور میرے اصرار پر فرمایا کہ تم چلے آؤ۔ فقیر تمہارے ایمان کا محافظ ہے۔ بیدار ہوا تو طبیعت سخت بے چین تھی۔ اسی وقت چل پڑا۔ مکان شریف پہنچا تو آپ کو مسجد میں جیسا کہ خواب میں دیکھ چکا تھا پایا۔ دیکھنے ہی دل بے قابو ہو گیا۔ بیعت کے لیے عرض کیا تو فرمایا پہلے استخارہ کرو۔ میں نے عرض کیا۔ "خیر و کار خیر حاجت، بیج استخارہ نیست۔" جو کچھ حضور نے خواب میں فرمادیا وہی کافی ہے۔ اگلی رات جمعرات کی تھی۔ آپ نے داخل سلسلہ فرمایا۔ داخل ہوتے وقت جو کچھ میں نے دیکھا اور جو کیفیت مجھ پر گزری وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ گویا اس طبیبِ روحانی نے خضر راہ ہو کر اور آبِ حیات بنا کر حیاتِ جاودانی بخشی کی بارگی جذبہ قوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سوزشِ مجتہد کی حرارت و طیش سے میں بے ہوش ہو گیا۔

چند روز قیام کے بعد حسبِ اللہ شاد چھیاری واپس آیا۔ مگر اب وہاں دل نہ لگتا تھا۔ پھر ماہنامہ سوا۔ حالاتِ بیعت خود آپ نے حکیم احمد علی صاحب مولف آیات سے جب وہ کلکتہ میں آپ کے پاس حاضر ہوئے بیان فرمائے۔

آپ کے آبا و اجداد چمپاری کے رہنے والے تھے۔ مگر آپ کے والد نے کچھ عرصہ بٹالہ شریف میں قیام فرمایا۔ اتفاقاً آپ کلانور گئے۔ نالہ کرن (سکتی) کے کنارے پر بیٹھ کر آپ کی طبیعت بہت خوش ہوئی۔ آپ وہیں رہنے لگے اور کنارہ کرن پر جو بڑا وہ ہے۔ اس پر آپ اکثر مراقبہ فرمایا کرتے۔ یہ جگہ جہاں اب مکان ہیں۔ سب غیر آباد تھی۔ جہاں اب بوہڑ کا درخت ہے۔ وہاں آپ مراقبہ ہوا کرتے۔ شیخ مراد علی و رحمت علی نے جن کی ملکیت میں یہ جگہ تھی آپ کو دے دی۔ پھر آپ کے والد اور تمام گھر کے آدمی کلانور آکر رہنے لگے۔

آپ کا معمول تھا کہ آٹھویں دن آپ مکان شریف حاضر ہوتے اور جب آپ کی نظر اپنے شیخ پر پڑتی تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر لوٹتے اور باوجودیکہ سیر مرادی پرفائز تھے۔ پھر بھی آپ ریاضات شاقہ اور مجاہدات فوق الطافیہ میں مصروف رہتے۔

اور جو کچھ نقد و خیس آپ کے پاس آتا تھا۔ آپ اس کو سر پر اٹھا کر کلانور سے مکان شریف حضرت اعلیٰ کی خدمت میں پہنچاتے۔ اور اس طرح آپ اعلیٰ حضرت کی نظر عنایت اور دعا و برکات سے فیض یاب ہوتے۔ چنانچہ ایک دفعہ آموں کے موسم میں آپ آملے کر خود حاضر ہوئے۔ گرمی اور بوجھ کی وجہ سے آپ کا تمام بدن پسینہ میں شرابور ہو رہا تھا۔ مائی صاحبہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ آپ کے لیے بدھن شاہ ہی بیگاری رہ گیا ہے۔ آپ نے متبسم ہو کر فرمایا بدھن شاہ کے بیگاری راجہ اور امراء ہوں گے۔

ایک دفعہ موسم سرما میں آپ پیادہ پا برمنہ اعلیٰ حضرت کے گھوڑے کے آگے چلے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھ کر فرمایا۔ بدھن شاہ تمہارے پاؤں کو سردی لگتی ہوگی۔ عرض کیا کہ حضور کی نظر عنایت ہو تو سردی کیوں لگے۔ فرمایا اگر خدا نے چاہا تو تیرے آگے صد ہا مخلوق خدا دوڑے گی۔ تیری خاک پا کو لوگ اکیس سمجھ کر آنکھوں کا سرمہ بنا دیں گے۔ پھر فرمایا تیرے دروازہ پر امرار و سلاطین پا برمنہ

آویں گے اور تیرا سنگ مشہور جہاں ہوگا۔

ایک دفعہ آپ کا پاجامہ پھٹا ہوا سن کر مائی صاحبہ نے کہا کہ بڑھن شاہ کا پاجامہ پھٹ گیا ہے۔ فرمایا۔ پاجامہ کا کیا ذکر ان کے تو فقیر بھی امیر ہوں گے۔

ایک دفعہ آپ ایسے خاص وقت میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور اعلیٰ حضرت نے ایسی توجہ فرمائی جو ان کے لیے کافی تھی۔ عین حالت توجہ میں آپ نے فرمایا ”کہ من دل ترا منستی گردایندہ ام۔“ (یعنی ہرچہ بر نفس تو برو حق تعالیٰ ہماں کند) ترجمہ میں نے ترے دل کو فتوے دینے والا بنا دیا ہے جس طرح تمہارا خیال ہوگا۔ خدا تعالیٰ اسی طرح کہے گا۔ ”چنانچہ آپ کی ساری زندگی اس امر کی شاہد ہے کہ جو کچھ خیال آپ کے دل میں آیا وہی ظہور پذیر ہوا۔

اعلیٰ حضرت نے ایک دفعہ آپ کو فرمایا کہ خدا تعالیٰ ترے دونوں ہاتھ کھول دے۔ آپ فرماتے ہیں آپ سے بوجہ ہیبت و خوف کے دریافت نہ کر سکا۔ آخر مرزا سہمگین بیگ سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ دونوں ہاتھ کھلنے سے مراد دین و دنیا کی کشائش اور ترقی ہے۔

چونکہ آپ سر مست مادہ الست تھے۔ اس لیے آپ زیادہ تر حالت استغراق میں رہتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مہمان کو مسجد میں بٹھا کر میاں بسا کے گھر جو ان کے مخلصوں میں سے تھا۔ کھانا تیار کرنے کا حکم دے کر خود ایک جگہ اپنے وظیفہ میں مشغول ہو گئے۔ وہاں ان پر ایسی حالت استغراق طاری ہوئی کہ دوسرے دن دوپہر کو وہی دن تصور کر کے کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ بہت انتظار کے بعد مہمان کل کھانا کھا کر چلا گیا۔

حالت استغراق کی ایسی بہت سی حکایتیں زبان زد عوام ہیں۔ اسی طرح ایک صبح مرزا جمیل بیگ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آٹھ پہر وہیں بے ہوش پڑے رہے۔ درویشوں کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ابھی صبح جمیل بیگ کی قبر پر گیا تھا۔ آٹھ پہر سو گئے ہوں گے۔

اسی طرح سجادہ نشین صاحب کلا نوری فرماتے تھے کہ پڑا وہ پر آپ مرا۔
 موتے تو سات شبانہ روز وہیں بے ہوش رہے۔ ایک عورت نے دعوت کے
 لیے عرض کیا سوا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کو سات دن گزر چکے ہیں۔
 اگرچہ آپ کو معلوم ظاہری اور کتب تصوف پر بظاہر زیادہ عبور نہ تھا مگر کلام
 کرتے وقت وہ باریک نکات میان فرماتے اور سامعین کے دل نشیں کر دیتے
 کہ تعجب ہوتا۔ ایک دفعہ دو نواب شاہ (حضرت کلا نوری اور قیوم عالم اعلیٰ حضرت
 پیرام علی شاہ) ایک مجلس میں تشریف فرماتے اور حاضرین اس قرآن السعدین سے
 فیض یاب ہو رہے تھے کہ حضرت کلا نوری نے طریقت و حقیقت کے متعلق وہ
 اسرار بیان فرمائے کہ ہر ایک اس کو سمجھ نہ سکا تھا۔ قیوم عالم نے مولانا احمد علی صاحب
 کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو سمجھے ہو۔ میں نے
 عرض کیا باوجود علمی ملکہ و مہارت کے ان غوامض کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکا۔
 بلکہ بڑے تفکر اور تامل کے بعد کچھ سمجھ آتا تھا۔ قیوم عالم نے یہ ربا علی پڑھی ہے
 ارباب فنا زندہ بحبان دگرند | بیرون زدو کون وز جہان دگرند
 کس پے بزبان جمال ایشان نبر | این طائفہ گویا بزبان دگرند
 جو شخص آپ کو دیکھ لیتا وہ یقین کر لیتا کہ یہ مرد خدا ہے۔ ان کے چہرے
 سے نور برستا تھا اور فقر اور امراء میں سے جو آپ کو دیکھ لیتا آپ کی
 تعظیم و تکریم کرنے کے لیے بے اختیار ہو جاتا۔ آپ ایسا کامل تصرف رکھتے تھے
 کہ دیکھنے والوں کے دلوں کو جذبات اور محبت الہی سے سرشار کر دیتے تھے۔
 باوجودیکہ اعلیٰ حضرت کی وفات کے بعد آپ قیوم عالم کا بہت زیادہ
 ادب کرتے تھے اور ارادت مندوں کی طرح ان سے ملتے تھے۔ مگر پھر بھی قیوم
 عالم بدیں خیال کہ حضرت کلا نوری نے اعلیٰ حضرت کے خوش کرنے میں کوئی دقیقہ
 اٹھا نہیں رکھا اور آپ اعلیٰ حضرت کے منظور نظر تھے۔ جب آپ کو حضرت
 کلا نوری کے مکان شریف تشریف لانے کا علم ہوتا تو آپ مکان شریف سے ایک میل

تک ان کے استقبال کے لیے جاتے۔ جب دونوں بادشاہ اکٹھے ہوتے تو خلقت کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا اور ان کی محبت کا نور زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا۔ اور حاضرین پر عجیب تاثیر ہوتی۔ اکثر گمراہ راہِ راست پر آ جاتے اور اس قدر فیض یاب ہوتے کہ راسخین پر فخر کر لگتے۔

آسمان سجدہ کند پیش زمینے کہ بڑے ایک دوسرے ایک دوسرے ہر خدا بنند
جب آپ مکان شریف تشریف لاتے تو موضع کھنڈ کے پہنچ کر سینس
سے اتر جاتے۔ وہیں قیوم عالم استقبال کے لیے پہنچ جاتے۔ جہاں یہ دو نور پائے
وحدت یکجا ہوتے۔ اس مجمع البحرین میں یا تو باغ لگ جاتا۔ یا عمارت بن جاتی۔
چنانچہ اس جگہ اب دو گاؤں آباد ہیں۔ پہلے کلر تھا۔ بوجہ اثر دریا یہاں آبادی ہو
گئی ہے۔ چونکہ ولولہ عشق و محبت الہی میں فانی ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کی
صحبت کی تاثیر سے امراء اور عقلمند لوگ ارادت کے ساتھ نہایت عجز و انکسار
سے پابوس ہوتے اور دیے اور تحفے پیش کرتے۔ سواری کے لیے پالکیاں گھوڑے
اور ہاتھی پیش کیے جاتے۔ مگر کبھی اس طرف متوجہ نہ ہوتے۔ سب خلقت کی طرف
سے منہ پھیر کر خالق کی طرف متوجہ رہتے۔ اگر کچھ قبول فرماتے تو خفیہ طور پر حاجت مندوں
کو دے دیتے۔ یا مہمان نوازی میں صرف کر دیتے۔

کبھی کبھی بہت ہی منت سماجت سے حضرت قیوم عالم و صاحبزادہ صاحب
(پیر صادق علی شاہ صاحب) کو کلا نوری لے جاتے اور عرصہ تک پر تکلف دعوتوں
سے مہاں نوازی کرتے اور چالیس چالیس یوم تک وہاں رکھتے اور رخصت کے وقت
نہایت عمدہ قیمتی پارچا ست اور روپوں کی دو دو طشت پر کر کے جدا جدا حضرت
قیوم عالم اور صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے۔ اور کلا نوری سے دو میل
تک رخصت کرنے آتے اور چشم گریاں اپنی تقصیر خدمت کی عذر خواہی کرتے
اور معافی مانگتے اور جب تک دونوں صاحب نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتے۔
دست بستہ وہیں کھڑے رہتے اور پھر کچھ پاؤں واپس آتے۔ اس طرف پشت

پشت نہ کرتے۔ آپ اس قدر ادب کرتے کہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ جس قدر ادب
 آپ مکان شریف کا کرتے وہ کہیں دیکھنے سننے میں نہیں آیا۔
 بول و براز تو کجا تمام عمر آپ نے مکان شریف کی حدود میں نہ تھوکانا
 صاف کیا۔ نہ کبھی بے وضو وہاں ٹھہرے۔ کلاؤں جلتے وقت آپ مکان شریف
 کی طرف کبھی پشت نہ کرتے۔ پیدل واپس جاتے تو پچھلے پاؤں جلتے اور پھر پاکی
 میں جانے لگتے تو بھی مکان شریف کی طرف منہ کر کے پاکی میں بیٹھتے۔ وضو تازہ
 کرنے کی ضرورت ہوتی تو مکان شریف کی حدود سے فوراً باہر جلتے اور وضو تازہ
 فرما کر مکان شریف کی سرزمین میں قدم رکھتے۔ فرمایا کرتے کہ مکان شریف کا راستہ
 پاؤں سے طے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ (از سر قدم بادر ساخت) سر سے طے کرنا چاہیے
 عاشقے کو ز سر قدم نکند راہ معشوق را قدم نہ زند

مولوی احمد علی صاحب "آیات القیومیہ" میں ایک انپا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ
 ایک دن وضو تازہ کرنے کے لیے (موضع ڈھولہ گولہ میں) مکان شریف کی حد
 سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ میں پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں
 پانی لے کر کھڑا رہا۔ مگر آپ نے دوسرے پانی سے طہارت اور وضو فرمایا۔ میں
 اسی تشویش میں تھا کہ آپ نے بعد اختتام وضو پانی کا کوزہ میرے ہاتھ سے لے
 کر پوری تعظیم کے ساتھ کچھ پیا اور کچھ ہاتھ میں لے کر اپنے سر آنکھوں اور چہرے او
 سینے پر ملا اور فرمایا کہ یہ پانی آب زمزم کی طرح متبرک ہے۔ میں نے کبھی اس
 سے طہارت نہیں کی۔

ہر سال دو دفعہ اپنے پیر کے صاحبزادہ فرید الدین صاحب کو کلاؤں میں لے
 جاتے۔ ایک مہینہ سے کم ضیافت نہ ہوتی تھی۔ انواع و اقسام کے کھانے تیار
 ہوتے۔ میوہ جٹا منگائے جلتے۔ مہاں نوازی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا جاتا۔
 رخصت کے وقت دو طشت روپوں سے پُر کر کے نذر گزارتے۔ خدمت
 گادوں تک کے کپڑے دیتے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ۛ

جو کچھ میرے پاس ہے سب تیار دیتے وچول دیونا کی جاندا میرا
صاحبزادہ کے لیے کلانور سے راج مزدور اور سامان بھیج کر سچتہ حویلی تیار
کرائی جو آج تک موجود ہے۔ تمام سال کا خرچ کلانور سے بھیجا جاتا۔ درویشوں
کے لیے پارچا ات ارسال کیے جاتے۔

ایک دفعہ صاحبزادہ فرید الدین صاحب کے کان میں ورد ہوا۔ کسی نے
آپ سے ذکر کیا اور کہا کہ اگر روغن بادام کان میں ڈالا جاوے تو آرام ہو جائے۔
آپ ایک کپٹی بادام روغن کی لے کر خود حاضر ہوئے۔ صاحبزادہ نے کہا کہ اس قدر
تسکین کیوں فرمائی ہے چند قطرے کافی تھے۔ ہاتھ بانڈھ کر عرض کی کہ آپ کے
باپ کی جوتیوں کی طفیل ہے۔

صاحبزادہ صاحب کو زراعت کا شوق تھا۔ آپ نے ان کے لیے ایک
بیل پرورش کیا۔ جب بیل قابل زراعت ہو گیا تو عرض کر بھیجا کہ اپنا بیل منگالیا جاوے
صاحبزادہ صاحب نے رلدو چوہڑد کو بیل لانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ
کو رلدو کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ ننگے پاؤں استقبال کے لیے باہر دوڑے
اور فرمایا (دھن میرے بھاگ میرے پیرا آدمی آیا) ”زبے نصیب کہ میرے
پیر کا آدمی میری طرف آیا۔“ آپ نے خود چار پائی بچھائی اور فرمایا۔ بابا رلدو
بھیٹ جا۔ درویش خدمت کے لیے آگے بڑھے تو فرمایا (بھئی ایہ میرے پیرا نوکر
تے میں ایہدا نوکر) آپ نے خود رلدو کے ہاتھ دھلائے اور کھانا لاکر اس کے
سامنے رکھ دیا۔ اور خود نپکھا کرنا شروع کیا۔

دوسری صبح کو بیل کو سنوار کر ایک من آرد گندم تیسری سیر گھی اور شکر سمراہ کر کے
بیل کا رسہ خود پکڑ کر نالہ کرن تک پاپیادہ رلدو کو رخصت کرنے آئے۔
ایک دفعہ صاحبزادہ صاحب نے گھر کا زیور جو آپ نے بھجوا یا ہوا تھا اجلا
کرنے کے لیے کلانور بھیج دیا۔ آپ نے محمد بخش سنار کو بلوایا اور زیور کا ڈبہ اس
کے حوالے کر کے فرمایا کہ کھول کر دیکھ لے۔ خود اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا۔

محمد بخش نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دیکھتے۔ فرمایا کہ یہ ہماری ماں کا زیور ہے۔ وہ لڑکانا لائق ہوتا ہے جو ماں کا زیور دیکھے۔ محمد بخش نے عرض کیا کہ پھر ہمارا کیا حال۔ فرمایا۔ تمہارا کام ہے۔

ایک دفعہ قیوم عالم کو ضیافت کے لیے کلانور بلوایا۔ اتفاقاً ان کے ہمراہ ایک کتا بھی چلا گیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو کتا بھی اس مجلس میں پھرتا تھا۔ ایک درویش نے اس کو دھتکارا۔ جب کتے کی آواز آپ نے سنی تو آپ خود وہاں فوراً پہنچے اور ناراض ہو کر درویش سے کہا۔ کہ تمہارا ایمان سلب ہو گیا۔ تو یہ کرو۔ تمہیں خبر نہیں کہ یہ کتا مکان شریف کا ہے۔ اسی وقت کتے کے آگے پلاؤ کی رکابی منگا کر رکھی۔ اور فرماتے کہ یہ کتا مجھ سے اچھا ہے جو ہر روز میرے پیر کی زیارت کرتا ہے۔

آپ ہر روز صبح بعد نماز فجر بیرواے پر چڑھ کر مکان شریف کی طرف منہ کر لیتے۔ اور وہاں سے چونکہ مکان شریف کے درختان پیل نظر آتے تھے۔ آپ پہلے ان درختوں کی زیارت کرتے پھر اور کام کرتے۔

ایک دفعہ صاحبزادہ صادق علی شاہ صاحب کو تین ماہ کے لیے بطور مہمان بلایا گیا۔ قیوم عالم نے اس خیال سے کہ صاحبزادہ سے آپ کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تھوڑے دنوں بعد ایک آدمی کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ مکان شریف والیں آجاویں۔ لیکن یہ طلبی میری طرف سے نہ ہو۔ صاحبزادہ موقع کی تلاش میں رہے۔

حضرت نے ایک کھیت میں پونڈا لگا رکھا تھا اور کچھ حصہ میں مولیاں تیار تھیں۔ دونو اجناس کا موکم تھا۔ لیکن آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ نہ کوئی گناہاں سے لیوے نہ مولی۔ صاحبزادہ صاحب نے دونوں چیزیں کھیت سے لیں اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھ سے نا فرمانی ہو گئی ہے۔ آپ نے جن اشیاء سے منع فرما رکھا تھا۔ وہ دونوں میں نے استعمال کر لی ہیں لہذا اب مجھے واپسی کی اجازت

دیا جاوے۔ فرمایا۔ دونوں چیزیں صرف تمہاری خاطر تھیں۔ اس لیے دوسروں کو منع کیا گیا تھا۔

پھر صاحبزادہ صاحب نے عرض کیا کہ مائی صاحبہ کا پیغام آیا ہے وہ یاد فرماتی ہیں۔ اجازت دے کر فرمایا کہ مائی صاحبہ کو ناراض نہیں کیا جاسکتا۔
نذرانہ اور تحائف دے کر آپ کے پیچھے مودب چلتے اور نہایت ادب سے رخصت کر کے آئے۔

مولوی علی محمد صاحب منشی مراد علی صاحب کی مسجد میں نماز پڑھانے لگے۔ تکبیر اٹھانے والے تھے کہ شاہ صاحب نے بلا بھیجا۔ مولوی صاحب اسی وقت چلے گئے۔ مرزا نیاز بیگ کے خاندان کے ایک شخص مرزا آدینہ بیگ جو وہلی سے تازہ فارغ التحصیل ہو کر آئے تھے، کو خیال آیا کہ کیا حضرت کا حکم خدا کے حکم سے زیادہ تھا۔ کہ آپ نے نماز سے بھی فراغت حاصل نہ کی۔ نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ بعد نماز مرزا آدینہ بیگ حضرت کی خدمت میں آئے۔ آپ نے دیکھتے ہی مرزا صاحب کو فرمایا کہ صبح مکان شریف چلے جاؤ۔ جب مرزا صاحب مکان شریف پہنچے تو قیوم عالم کے دربار میں ذکر پیری سرمدی کا پورا ہوا تھا۔ فرمایا۔ مولوی صاحب آگئے ہیں۔ ان سے مسئلہ دریافت کر لو۔ کہ اگر حکم خدا نماز قضا ہو جاوے تو کیا کیا جاوے۔ مرزا صاحب نے عرض کیا کہ قضا پڑھی جاوے۔ پھر فرمایا کہ اگر پیر کا حکم قضا ہو جاوے۔ مرزا صاحب نے عرض کیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس طرح مرزا صاحب کی زبانی تصدیق کرا کے ان کا شبہ رفع کرایا گیا۔ مرزا صاحب حیران تھے کہ ان دونوں صاحبوں میں عجیب راز ہے۔
ایک دفعہ آپ ریاست جموں کے پہاڑی علاقہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے راجپوت لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا تو ان کو بلوا کر توبہ کرانے۔ فرمایا کہ تم کوئی ضامن دو کہ پھر لڑکیوں کو قتل نہ کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ضامن کس کو دیں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کنواں ضامن

ہے۔ چنانچہ وہ کنواں ان لوگوں کی عہد شکنی کی وجہ سے خشک ہو گیا۔

مرزا قادیان کے متعلق آپ کی پیشنگوئی

ایک دفعہ آپ قادیان تشریف لے گئے۔ جہاں اب مرزا صاحب کے مکانات ہیں۔ یہ جگہ اس وقت سفید تھی۔ آپ وہاں خیمہ زن ہوئے۔ ہمیشہ سے درود خضریٰ آپ کا معمول تھا مگر وہاں آپ نے فرمایا کہ درود شریف خضریٰ کی بجائے آج **حَمَلَى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَسَلَّمَ** پڑھو۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ اس جگہ سے شیطان کا سینگ (شاخ شیطان پیدا ہوگا۔ اس کی بدبو آ رہی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کے چالیس سال بعد مرزا قادیان کا ظہور ہوا۔

ایک دفعہ قادیان کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وظیفہ کے لیے التجا کی۔ فرمایا تم لا حول پڑھا کرو۔ عرض کرنے پر ارشاد فرمایا کہ قادیان سے شیطان کا ایک سینگ ظاہر ہونے والا ہے۔ ایک کامل کی اس قدر عرصہ پہلے پیشنگوئی اہل بصیرت کے لیے ابطال مرزا کے لیے کافی ہے۔

میرانند ساکن مولودال | آپ کا معتقد تھا اور چنے وغیرہ کی چھاڑی لگایا کرتا تھا۔ آپ ایک دفعہ لاہور تشریف لے گئے۔ میرانند کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا۔ تو اس نے خالی ہاتھ جانا مناسب نہ سمجھا، اپنی ایک گڑوی (برتن) فروخت کر کے ایک نانک شاہی روپیہ مہیا کیا۔ اور حاضر ہو کر نذر گزارا۔ آپ کو روپیہ کے حاصل کرنے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ روپیہ آپ نے کنوئیں میں پھینک دیا اور فرمایا کہ اس دشمن نے دوست کو تکلیف دی اور اتنی دیر تک جدار کھا۔

آپ کو ہیرانند کے حال پر رحم آیا۔ فرمایا، کیا کام کرتے ہو۔ ہیرانند نے ہاتھ جوڑ کر اوب سے عرض کیا کہ دو پیسے کے چنے بیچا کرتا ہوں۔ فرمایا۔ ہیرانند تحصیلدار کھڑا ہے اور حکم دیا کہ اب یہ کام چھوڑ دو اور جواہرات کا کام کیا کرو۔

ادھر ہیرانند آپ سے رخصت ہو کر بازار میں جا رہا تھا۔ ادھر مہاراجہ نے منگھ صاحب کے ملازم کسی جواہرات کے دلال کی تلاش میں جا سے تھے کیونکہ پہلے دلالوں کی خیانت کا مہاراج کو علم ہو گیا تھا۔ ملازموں کے دریافت کرنے پر ہیرانند نے جس کو حضرت کے فرمان پر پورا یقین تھا۔ کہا کہ میں جواہرات کی خریداری کا کام جانتا ہوں۔ چنانچہ ہیرانند ان کو جواہرات کی دکان پر لے گیا اور کہا کہ اصلی اور عمدہ جواہرات دکھاؤ اور قیمت بالکل صحیح بتاؤ۔ جس میں فیس دلالی بھی شامل نہ ہو۔ جو ہریوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ پہلے دلالوں کے ساتھ ان کی بھی بے اعتباری ہو چکی ہے۔ انہوں نے نہایت عمدہ مال صحیح قیمت پر دے دیا۔ مہاراج کے رو برو جب جواہرات پیش ہوئے اور ان کی قیمت عرض کی گئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس طرح ہیرانند پر مہاراج کی نظر عنایت ہوتی گئی اور آخر کار مہاراج نے آپ کو دیانت دار دیکھ کر ڈیرہ غازی خاں میں کاردار یا تحصیل دار کر کے بھیج دیا۔ ہیرانند ناخواندہ تھا۔ صرف نام لکھنا سیکھا ہوا تھا۔ کام سب نشی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہیرانند حاضر خدمت ہوا تو اپنے صاحب (افسر) کی بہت تعریفیں کرنے لگا۔ جب اس نے زیادہ مبالغہ کیا تو آپ نے کبیدہ خاطر ہو کر فرمایا کہ اب بس بھی کرو۔

ہیرانند اپنی ملازمت پر واپس گیا تو ۱۲۰۰ روپیہ کے غبن کے الزام میں اس کی گرفتاری کا حکم ہوا۔ چونکہ ہیرانند کی گرفتاری کے وارنٹ نکل چکے تھے اور وہ روپوش ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کی گرفتاری پر انعام دیئے جانے کی فستہری ہو چکی تھی۔ ہیرانند دن کو چھپ رہتا۔ رات کو سفر کرتا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ جب سردی کی زیادہ شدت ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ دروازہ

کھولو۔ صاحب کا (مداح) یادوست آیا ہوا ہے۔ ہیرانند قد مہوس ہوا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اپنے صاحب کو بھلا کر تم صاحب بہادر (افسر) کی تعریفیں کرتے تھے۔ ہیرانند نے توبہ کی۔ جب وہ بہت گڑگڑایا۔ تو آپ نے فرمایا۔ لاہور واپس جاؤ۔ اور سیدھے صاحب (افسر) کی کوٹھی پر چلے جاؤ۔ راستے میں کوئی بلا دے تو جواب نہ دینا۔

اشہداری مجرم ہیرانند اب دن دہاڑے جا رہا تھا۔ راستے میں دو پولیس والوں نے پہچان لیا اور آواز دی۔ مگر یہ سیدھا خاموش آواز دینے والے کی پرواہ کیے بغیر چلا جا رہا تھا۔ پولیس والوں نے خیال کیا کہ ہمیں دھوکا ہوا ہے۔ یہ کوئی اور شخص ہوگا۔ ہیرانند ہوتا تو جواب نہ دیتا، اور اس طرح بے خوف کیے جاسکتا ہے۔ غرض جب صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر اطلاع کرائی تو صاحب بہادر (افسر) نے کہا کہ وہ معاملہ کچھ اور نکلا۔ رات کو مجھے خواب میں معلوم ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ صبح کو میں نے تحقیقات کی تو اصلیت معلوم ہو گئی، ہمیں تمہاری تکلیف کا افسوس ہے۔ چنانچہ اب عہدے پر بحال کیا گیا۔ اور علاوہ تنخواہ کے ۵۰۰ روپیہ العام اور خلعت سے سرفراز کیا گیا۔ ہیرانند نے موضع موٹو والی میں ۲۵ گھاؤں زمین آپ کو دی جو اب تک سجادہ نشین صاحب کلا نور کے قبضے میں ہے۔

ہیرانند کی التجا اور اصرار پر آپ نے ڈیرہ غازی خاں جانے کا قصد فرمایا۔

راستے میں موضع اکبر ضلع منٹگمری (ساہیوال) میں آپ کو شام ہو گئی۔ حیوان نامی ایک شخص سے آپ نے دریافت کیا کہ یہاں پاؤلیوں (جلاہوں کے) گھر کس طرف ہیں۔ حیوان نے عرض کیا کہ پاؤلیوں سے آپ کو کیا کام ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ان کے کیلوں سے گھوڑے باندھیں گے اور رات بسر کریں گے۔

حیوان جو اس وقت پہونڈ کے سرداروں کی طرف سے مختاریا کاردار تھا۔ آپ کے

دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ عرض کیا کہ اگر حضور منظور فرمادیں تو آج رات اپنا پاولی مجھے نبالیوں اور میری طرف سے حاضر قبول فرمادیں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ حیوا نے بہت خدمت کی۔ صبح آپ نے فرمایا کہ آج کل گاؤں کی دعوت ہماری طرف سے۔ چنانچہ چھ دن بے ذبح کرائے گئے اور چھ دگیں زردہ کی پکوائی گئیں۔ اور کل گاؤں کو کھانا کھلایا گیا۔

حیوا کے ہاں اس وقت تک اولاد نہ تھی۔ اس کے عرض کرنے پر فرمایا۔ تمہارے ہاں لڑکا خدا دیوے گا۔ حسین بخش نام رکھنا۔

آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی اولاد کے لیے عرض کرتا۔ تو ہمیشہ آپ اپنے پیر کے نام پر حسین بخش نام رکھنے کے لیے فرماتے۔

آپ کی دعا سے حیوا کے ہاں لڑکا ہوا جس کا نام حسین بخش رکھا گیا۔ اس کے بعد سات لڑکے اور پیدا ہوئے جن میں سے حسین بخش، پیر محمد، شیر محمد، عبداللہ، مراد بخش کے نام یاد رہے ہیں۔

حسین بخش کا لڑکا یعنی حیوا کا پوتا خان صاحب میاں چراغ الدین اب برج حیوا میں ذیلدار اور رئیس اعظم ہیں۔ میاں چراغ الدین صاحب کے ہاں بھی آٹھ لڑکے ہیں۔

دوسرے بیٹے حاجی شیر محمد کی اولاد سے میاں عبدالوہاب دوسرے علاقہ کے ذیلدار ہیں۔ اور میاں حیوا کی اولاد آپ کی دعا سے اس وقت صاحب اقتدار اور کثیر قبہ کے مالک اور علاقہ کے رئیس ہیں۔

غرض اس رات آپ ڈیرہ غازی خاں پہنچے۔ مہراند کو معلوم ہوا تو اس نے پہلے اپنے ملازموں کو نذرانہ دے کر بھیجا۔ آپ کی زبان سے نکلا۔ وہ خانہ خراب خود کیوں نہ آیا۔ رات کو مہراند کی عورت بیمار ہو گئی۔ اسی حالت میں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور بیعت ہوئی اور اپنا سارا زیور اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور درخواست کی کہ میں جاؤں

تو میری لاش کو جلایا نہ جاوے۔
 صبح کو وہ مر گئی۔ ہیرا نند نے کہا کہ کل علاقے کے منہرج جمع ہوں گے۔ میں کس
 طرح اس کو دفن کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ تم اپنے دستور کے مطابق جلادو۔ مگر کفن اچھا
 مسلمانوں کا سا دینا اور دکھلا دینا۔

جب کفنا کر جانے کے لیے گئے تو آپ نے ایک درویش کو بلا کر کہا کہ تم
 خفیہ طور پر جاؤ اور لاش کی نگرانی رکھو۔ خبردار اگر یہ عورت جل گئی تو مجھے بھی جلا دیا
 جاوے گا۔ جو کچھ ظہور میں آوے وہ آکر بیان کرو۔

جب چٹا جل چکی اور دستور کے مطابق سر پر ضرب لگائی تو کفن صحیح سالم باہر
 نکل آیا۔ لوگ حیران ہوئے۔ درویش نے وہاں پہنچ کر کہا کہ اس کفن کو حضرت صاحب
 کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں جلے گا۔ مجھے دے دیا جاوے۔ چنانچہ درویش کفن لے
 کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ کہتے ہیں کہ پھول چلتے وقت
 متوفیہ کی ہڈیوں کا نشان تک بھی نہ ملا۔ ہیرا نند بھی آخر کار مسلمان ہو گیا۔ اس کی یادگار
 کے طور پر ایک چاہ موضع موہلو والی میں حضرت کے جانشینوں کے نام ہے۔

قلعہ نونار میں کاردار تھا اور حضرت
 کا معتقد تھا۔ برچھا گردی میں

گو بند جس ساکن جلال آباد تحصیل ترن تارن

کچھ سکھوں نے قلعہ پر حملہ کیا۔ لڑائی ہوئی۔ گو بند جس کا ایک بازو لڑائی میں کٹ گیا جس
 پر گو بند جس اور اس کے ہمراہی قلعہ میں محصور ہو گئے۔ کسی طریق سے اس نے حضرت
 کے پاس یہ کیفیت عرض کر بھیجی۔ آپ نے سن کر فرمایا۔ گو بند جس کا بازو کیا کٹا۔ بازو
 کاٹنے والے خود کٹ گئے۔ چنانچہ سکھ مانکان قلعہ کی امداد پہنچ گئی اور محاصرین
 سب کے سب قتل ہو گئے۔ کٹ گئے جلال آباد میں اب تک گو بند جس کی اولاد
 موجود ہے اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے اور مجھ سے بیان کیا گیا کہ گو بند جس حضرات
 مکان شریف کا مرید تھا۔

ٹیک چند ساکن فتح گڑھ چوڑیاں | لاہور میں چنے اُبال کر گھنگنیاں بیچا کرتا

تھا۔ حضرت کا شہرہ سن چکا تھا۔ ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب کلا نور والے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں وہ اسی طرح چھاڑی سر پر اٹھا پہنچ گیا اور آپ کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دن میں کچھ ایسا تاثر ہوا کہ وہ چھاڑی حضرت کے قدموں میں رکھ دی اور دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ اس غلام کی اس قدر استطاعت ہے آپ سے قبول فرما کر درویشوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤ ان کو فروخت کرو۔ درویشوں کو خدا بہت کچھ دیتا رہتا ہے۔ ٹیک چند نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضرت درویشوں کو تو ضرورت نہیں لیکن اگر میرے یہ چند دانے حضور قبول فرما کر درویشوں کو کھلا دیں تو میرے لیے عین سعادت ہے۔ اس کے عجز و انکسار اور التجا پر آپ نے غلام محمد کو حکم دیا کہ درویشوں کو تقسیم کر دو۔ فرمایا۔ بھئی تمہارا نام کیا ہے۔ عرض کیا۔ ٹیکو۔ فرمایا۔ آج سے اس کو لالہ ٹیک چند پکارا کرو۔ اور فرمایا ” بھئی واتیریاں گھنگنیاں وڈنیاں تے اٹھوئے فضل دیاں لہراں چلنیاں۔“

ٹیک چند آپ سے رخصت ہو کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص نے جو سرکاری ملازم تھا۔ ٹیک چند کو خوش شکل دیکھ کر کہا کہ لالہ جی نوکری کرو گے۔ اثبات میں جواب دینے پر وہ ٹیک چند کو ایک افسر کے پاس لے گیا۔ کسر میٹ میں ملازم ہو گئے۔ چار آنے دے کر اپنا نام مندی میں لکھنا سیکھا۔ رفتہ رفتہ آپ کی دعا سے لالہ ٹیک چند کسر میٹ تو کیا کل سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے اور اندر باہر کے سب کام ان کے سپرد ہو گئے اور رانی سدا کور کے منظور نظر ہو گئے۔ جس طرح لالہ ٹیک چند کہتے وہی ہوتا۔

حضرت نے کلا نور میں ایک مسجد کی تیاری کا ارادہ کیا۔ لالہ ٹیک چند نے یہ کام اپنے ذمہ لیا لیکن مسجد کی بنیاد دیکھ کر لالہ ٹیک چند گھبرا گیا۔ جب حضرت نے غلام محمد کو لالہ ٹیک چند کے پاس روپیہ کے لیے بھیجا تو اس نے کہا کہ میری طرف سے یہ روپیہ پیش کر کے عرض کرنا کہ فی الحال اسی روپیہ سے کام چلا دیں زیادہ روپیہ

موجود نہیں ہے۔ غلام محمد نے اسی طرح حاضر خدمت ہو کر عرض کر دیا۔ آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، خود ہی روپیہ بھیجے گا۔ ادھر آپ کی طبیعت مکتدر ہوئی۔ ادھر مہاراجہ شیر سنگھ کے پاس شکایت ہوئی کہ لالہ ٹیک چند کل خزانہ کھا گیا ہے۔ اور اندرون مملکت میں اس کی آمدورفت بہت بدنامی اور بے عزتی کا باعث ہے۔ مہاراجہ شیر سنگھ نے حکم دیا کہ تیسرے دن لالہ ٹیک چند کی شیر سے کشتی کرائی جاوے۔ جب جمعہ کے دن اس واقعہ کی اطلاع لالہ ٹیک چند کو دی۔ تو لالہ صاحب کے اوسان خطا ہو گئے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جاوے۔

آخر لاچار ہو کر گھوڑوں کی ڈاک لگا کر کلانور حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ چونکہ لاہور سے کلانور فاصلہ پر تھا۔ اس لیے جس وقت لالہ صاحب پہنچے۔ آپ دروازہ بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ غلام محمد نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ باہر ایک شخص ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ فرمایا۔ کھڑا رہنے دو۔ اُسے کچھ نہ کہو۔ وہ اسی لائق ہے۔ مگر لالہ ٹیک چند گرمیوں کی ساری دوپہر گلی میں پگڑی ڈال کر حضرت کی دہلیز پر سر رکھ کر روتا رہا۔ نماز ظہر کے لیے دروازہ کھلا تو فرمایا۔ بلا لاؤ۔ لالہ ٹیک چند نے حاضر ہو کر آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روزا شروع کیا۔

فرمایا۔ کیا حال ہے۔ لالہ ٹیک چند عرض کیا کہ حضور کی مہربانی سے نہایت اچھا ہوں۔ مگر صرف آخری دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کل مہاراجہ شیر سنگھ صاحب کے حکم سے شیر سے کشتی ہے۔ چونکہ آپ کا خادم ہوں اور اس دروازے کے سوا اور کوئی بلجا و ماوا نہیں ہے۔ لہذا آخری زیارت کے لیے آیا ہوں۔

فرمایا۔ کون شیر سنگھ۔ عرض کیا مہر کار شیر سنگھ۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مسجد کی بنیاد دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ ہمارے کام تو منعم حقیقی کے سپرد ہیں۔ وہی کار ساز کافی ہے۔ کم نجات تمہارے دل میں کیا خیال آیا۔ فرمایا۔ شیر سنگھ مر گیا۔ جہان سے اٹھایا گیا۔ تم جاؤ اور مسجد کے لیے انتظام کرو۔ مگر مہاراج کے پاس کل نماز عصر کے بعد جانا۔ اس سے پہلے نہ جانا۔ جو پتائے تم لائے ہو۔ مال کرن میں ڈال دو۔ لالہ ٹیک چند

نے جب یہ خوشخبری سنی تو آپ کی جوتیوں کا تلا (نچلا حصہ) اپنی زبان سے چاٹنے لگا اور اجازت ملنے پر لاہور واپس آیا۔

اور ۱۰۰ چھکڑے (گڈے) موضع لودی منگل کے کسریٹ میں کام کرتے تھے۔ مسجد کی اینٹیں ہم پہنچانے کے لیے لگا دیئے۔ اور مسجد کی تعمیر شروع کرائی۔ جو بعد میں مکمل ہو گئی اور اب تک موجود ہے۔

ادھر تاریخ مقررہ پر مہاراجہ شیر سنگھ نے بارہ درمی میں جو دریائے راوی کے کنارے متصل مزار حضرت شاہ بہلول دربار لگایا اور جشن شروع کیا۔ ایک طرف فوج کو تنخواہ تقسیم کرنے کے لیے خزانہ کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف شیر کا پنجرہ لالہ ٹیک چند کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ لالہ ٹیک چند کی حاضری کا حکم دیا گیا۔ جو شخص بلائے جاتا اس کو کچھ دے دلا کر کہہ دیا جاتا کہ کپڑے بدل کر حاضر ہوتا ہوں۔ عرض حسب فرمان حضرت عصر کے بعد لالہ صاحب پہنچے۔ اس اثنا میں بانا اور لاڈا پہلوان کی کشتی شروع ہو چکی تھی۔ لالہ صاحب کو دیکھ کر مہاراجہ شیر سنگھ نے کہا۔ کہ اس کی مشکیں باندھ دو۔ اس کشتی کے بعد اس کی کشتی دیکھی جاوے گی۔

اتنے میں مہاراجہ جیت سنگھ سنداں والیہ اپنی فوج سمیت حاضر ہوا۔ بابا دھونکلا سنگھ فرانس نے مہاراجہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور سنداں والیہ کی قرابینوں پر پتھری لگی ہوئی ہے۔

مہاراجہ نے کہا کہ بابا جی سنداں والیہ کا ہم نے کچھ بگاڑا تو نہیں بلکہ جب ان کو دس نکالا دیا گیا تھا۔ تو میں نے بصد منت بابا جی کو راضی کر کے ان کو واپس بلوایا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ بیٹا سنداں والیہ کا اعتبار نہ کرنا۔ اسی اثنا میں اجیت سنگھ قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے فتح بلائی اور کہا کہ بھایا جی یہ دونالی رانفل میں نے کلکتہ سے ۷۰۰ روپیہ میں منگائی ہے۔ کہا دکھاؤ۔ مگر سرکار کی توجہ کشتی کی طرف تھی۔ اور اجیت سنگھ روش کے نیچے تھا۔ اس نے بندوق کی نالیاں بندوق دکھانے کے لیے قریب پہنچا دیں اور گھوڑے دبا دیئے۔ فائر کا ہونا تھا کہ مہاراجہ کی ڈاہری جل کر

سیاہ ہو گئی۔ دوسرے بھائی نے تلوار سے سر قلم کر دیا۔ ایک کھرام مچ گیا۔ بابا پہلوان
کہا کرتا تھا کہ میں اس وقت لاڈا کے اوپر تھا۔ اسی طرح برہمنہ جسم بھاگ نکلا۔ اور
بڑے میاں صاحب کے درس میں جا کر دم لیا۔ اور چادرے کر اور ٹھی۔

میاں گھنڈہ ندھی کھنے والا نے لالہ ٹیک چند کی مشکیں تلوار سے کاٹیں اور کہا کہ
بھاگ جا تیری زندگی کے دن ابھی باقی ہیں۔ ٹیک چند نے حاضر ہو کر مسجد مکمل کی۔
ٹیک چند کے وارث دیوان ولباغ رائے صاحب موضع کوٹ کیسر سنگھ کے
واحد مالک اور آنریری مجسٹریٹ اور رئیس اعظم امرتسر ہیں اور بیان تو ہے کہ ان کے
بزرگ حضرت کا ختم دلویا کرتے تھے۔

گھوٹھال قوم سقہ ساکن خطرے تحصیل اجبالہ

مہاراجہ رنجیت سنگھ کا
مصاحب تھا میں نے

خود یہ واقعہ اکثر لوگوں سے سنا ہے اور ایک کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ ایک دفعہ مہاراج
سفر میں تھے اور حکم تھا کہ گھوٹھال سب سے آگے چلے۔ مہاراج اس طرح جا
رہے تھے اور گھوٹھال کے گھوڑے کی گرد مہاراج پر پڑتی تھی۔ باڈی گارڈ کے
ایک سکھ سردار نے گھوٹھال کو کہا کہ پیچھے مو جاؤ۔ مہاراج پر گرد پڑتی ہے۔ مگر مہاراج
صاحب نے جو گھوٹھال کے گھوڑے کی گرد کو اپنی آنکھوں کا سہمہ سمجھتے تھے۔ فرمایا
کہ گھوٹھال کے گھوڑے کی گرد کہاں پائیے۔ ”گھوٹھال کے گھوڑے کی گرد کہاں
نصیب ہوتی ہے۔“

گھوٹھال حضرت کلانوری کلنے والا تھا اور آپ کی محبت کی یہ تاثیر تھی چنانچہ
گھوٹھال کی یادگار محل اور مسجد خطرے کلاں میں اب تک موجود ہے۔
موضع منج میں حضرات مکان شریف کی ملکیت تھی۔ حضرات مکان شریف کی
طرف سے وہاں غلام قادر۔ میاں عطا محمد۔ بابا بسو۔ عمر بخش۔ عبداللہ کوٹ والا
رہتے تھے۔ قلعہ دار کلانور صاحبزادہ فرید الدین سمیت ان درویشوں کو گزٹا کر کے
کلانور لے آیا۔ اور حوالات میں سے دیا۔

حضرت کلانوری کو اس واقعہ کا علم ہوا۔ تو مہر روڈا کو بلا کر فرمایا کہ اگر صاحبزادہ صاحب آج قید میں رہے تو کلانوری کی خیر نہیں۔ آج ہی غرق ہو جاوے گا۔

مہر صاحب گئے اور ضمانت دے کر صاحبزادہ کو چھڑا لائے۔ جب مہر صاحب صاحبزادہ کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت نے خوش ہو کر مہر صاحب کے حق میں دعا فرمائی۔ فرمایا۔ ایسی برکت ہوگی کہ سات پشتوں تک کمی نہیں آئے گی۔ مہر امیر اللہ زیدار فرمایا کرتے کہ ہم پر آپ کی دعا کا اثر ہے۔

بابا بستو وغیرہ باقی درویش حوالات میں مکان شریف کی طرف منہ کر کے مراد ہو گئے۔ پھوڑی دیر گزری کہ قلعہ دار کو خبر پہنچی کہ تمہاری بیوی سخت بیمار ہے۔ گھبراہٹ میں قلعہ دار جلدی سے اٹھا۔ ننگے سر تھا اور کھونٹی سے ہتھیار لٹکے تھے وہ اس کے سر پر گرے۔ سر میں زخم آیا۔ خون جاری ہو گیا۔ قلعہ دار کے ملازم (دیوارم) نے عرض کیا کہ حضور نے جب سے یہ کالے کرموں والے درویش قید کیے ہیں۔ انہوں نے مرغوں کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ورنہ قلعہ غرق ہو جاوے گا۔ قلعہ دار نے ہاتھ جوڑ کر درویشوں کو حوالات سے نکالا اور رخصت کیا۔

چوہدری منصبدار نمبر وار ڈھیری والا کالڑا کا سخت بیمار ہو گیا۔ مایوسی کی حالت میں کلانوری حضرت کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ لڑکا بھلا چنگا (سندرست) ہے۔ منصبدار نے اجازت مانگی۔ آپ بدھ کے روز اجازت نہ دیتے تھے۔ اس نے اجازت کے لیے اصرار کیا مگر آپ نے اجازت نہ دی زیادہ مجبور کیا تو فرمایا جاؤ مگر حضرت کی طفیل تمہارے کوٹھوں پر سوہاگہ پھر جاوے گا۔ منصبدار نے گھر جا کر ذکر کیا تو اس کی عورت نے کہا کہ حضرت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی خالی نہیں جاتے۔ ہماری اب خیر نہیں۔ مکان شریف جا کر عرض کرو۔ عرس مکان شریف قریب تھا۔ عرس کے دن دو صاحب شریف فرمائے۔ منصبدار ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر مارے ہیبت کے عرض نہ کر سکا۔ آخر قیوم عالم کے دریافت کرنے پر عرض کیا۔ حضرت کلانوری نے اس طرح کہا ہے۔ فرمایا ان کے

حکم کی تعمیل میں چھوٹی ٹسی مکرٹی کا سوہاگہ بنا کر مکان پر پھیر دو۔

دستور تھا کہ جب کبھی آپ کسی پر ناراض ہوئے۔ تو وہ مکان شریف میں حاضر ہو کر عرض کرتا۔ حضرات مکان شریف کی طرف سے سفارش ہوتی۔ تو جواب میں آپ فرماتے (" غلامِ واکلی حق ہے جو سرکارِ فرماوے منظور ہے ")

ایک دفعہ آپ اپنے کتے پر ناراض ہوئے۔ وہ مکان شریف آگیا۔ جب آپ مکان شریف تشریف لائے تو کتا بھی سامنے آگیا۔ کتے پر نظر پڑی تو فرمایا۔ تو یہاں پناہ لینے کے لیے آگیا ہے۔ ادھر کتا ترپ رہا تھا ادھر آپ وجد میں تھے۔ سردار پرتاپ سنگھ ساکن جوڑہ آپ کا معتقد تھا۔ آپ اس سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے۔ بدھ دار حاضر ہوا۔ اس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا۔ آج یہیں رہو۔ سردار صاحب نے اصرار کیا۔ تو فرمایا۔ " نہیں رہنا تے سردار جی کر پا کرو۔ چھو پلانا سرتے دھرو۔ " اتفاق کی بات ہے راستے میں گھوٹے کو ٹھوکر لگی۔ گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ سردار صاحب کو چھو پلانا (زین اور تارو) سر پر اٹھا کر گھرا نا پڑا۔ سردار پرتاپ سنگھ کے ساتھ آپ اکثر مذاق فرمایا کرتے۔

ایک دفعہ اس نے کہا کہ حضرت کتے مہندو ہیں یا مسلمان۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ رات کو کھلا بھیجا کہ آج دعوت ہماری طرف ہے۔ مہندوؤں اور مسلمانوں کو مدعو کیا گیا۔ اور ایک شخص سے فرمایا کہ تم شہر کے کتوں سے کہہ دو کہ تمہاری دعوت بھی ہماری طرف ہے۔

علیحدہ علیحدہ کھانے کی جگہ تیار کرائی گئی۔ قنائیں لگوادی گئیں۔ درمیان میں کتوں کے لیے جگہ بنائی، جو آکر وہاں جمع ہو گئے اور ان کے لیے قیمہ ڈال کر روغنی دیا تیار کرائی گئیں۔ کھانے کے وقت قنائوں کا پردہ اٹھا دیا گیا کتے اپنی اپنی روٹی لے کر الگ الگ ہو بیٹھے۔ آپ نے سردار صاحب سے ہنس کر فرمایا کہ پرتاپ سنگھ دیکھ لو، کتے مہندوؤں کی طرح کھاتے ہیں یا مسلمانوں کی طرح اور سمجھ لو کہ آیا وہ مہندو ہیں یا مسلمان۔ کیونکہ مسلمان مل کر کھانا کھاتے تھے۔ اور مہندو الگ الگ۔

آپ فرماتے۔ میاں میلا ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس سے قیامت کا دن یاد آجاتا ہے۔ جس کے پاس پیسے ہوں وہ شیرینی وغیرہ حسب پسند خرید لیتا ہے اور جو وہاں خالی ہاتھ جاوے اس کو سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

کبھی کبھی آپ درویشوں کو حکم دیتے کہ آج میلا لگاؤ۔ درویش تمام سازوسامان چھکڑوں پر لا کر لے جاتے اور دورویہ دکانیں سجا کر میلے کا بازار لگا دیتے۔ آپ تشریف لے جاتے اور دریافت فرماتے کہ فلاں چیز کا کیا نرخ ہے۔ نرخ عرض کرنے پر فرماتے، یہ بہت گراں ہے۔ درویش جو پہلے سے طبیعت شناس تھے کہتے کہ آپ کی مرضی ہو خریدیں ورنہ اپنی راہ لیں۔ اس طرح خوش طبعی فرما کر وہ تمام سازوسامان اور مٹھائیاں وغیرہ تقسیم فرما دیتے۔

آپ کے لنگر میں ہمیشہ گوشت پلاؤ۔ زردہ اور اعلیٰ اقسام کے کھانے تیار جو درویشوں کا لباس بڑے ٹھاٹھ کا ہوتا اور آپ کے شیخ حضرت حاجی صاحب مرحوم کا فرمان پورا نظر آتا "کہ آپ کے درویش امیر ہوں گے۔"

منڈی میں جو اچھی جنس آتی۔ شام داس آڑھتیہ وہ سب کی سب لیوان خانہ میں پہنچا دیتا۔ جب حساب ہوتا۔ ہزاروں روپے ادا کیے جاتے۔

چنانچہ آپ کی وفات کے وقت جو حساب ہوا۔ تو ۲۷ من خام صرف مرچ سیاہ کی قیمت ادا کی گئی۔

بوجہ کسر نفسی آپ کسی کو بیعت نہ کرتے۔ جو شخص بیعت ہونے کے لیے عرض کرتا۔ فرماتے میاں پلاؤ زردہ کھانا ہو تو یہاں رہو۔ خدا کا نام سیکھنا ہو۔ تو مگنا شریف چلے جاؤ۔ فرماتے۔ یہ بے ادبی ہے کہ حضرت قیوم العالم کے ہوتے ہوئے میں اپنی دکان علیحدہ چلاؤں۔

علاقہ شکر گڑھ سے مسمی الفاکو جرنے اصرار کیا کہ میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے۔ آپ نے بہتیرا سمجھایا مگر الفاکو اپنی بات پر مقرر رہا۔

فرمایا۔ "تمہارا لکھ نہ رہے گا۔" اس نے عرض کیا، خواہ کچھ بھی نہ رہے

بیعت آپ سے ہوں گا۔ بالآخر آپ نے اس کو بیعت کیا۔ وہ مغلوب الحال ہو گیا۔ اس کے بیوی بچے بھی فوت ہو گئے اور خود اسی حالتِ دیوانگی میں اس کا وصال ہوا۔ آپ بڑے سخی تھے۔ مسائل کو کبھی محروم نہ جانے دیتے۔ سب کچھ تقسیم فرمادیتے۔ اور افلاس کا خیال نہ کرتے۔

تعمیر مسجد کے وقت جب مزدوروں کو مزدوری تقسیم فرماتے تو لوگ حیران ہ جاتے کہ اس قدر روپیہ کہاں سے آتا ہے۔ چنانچہ دو مزدور رات کو آپ کے مصئے کے نیچے کی زمین کھودتے رہے مگر کچھ نہ ہاتھ آیا۔ دوسرے دن آپ نے مزدوری تقسیم فرمائی تو ان دونوں کو دو چند اجرت عطا فرمائی۔ عرض کرنے پر فرمایا۔ تم رات کو کبھی کام کرتے رہے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے مالی (باغبان) کو حکم دیا کہ کوئی حلوا کدو ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ابھی کدو کی بلیں بڑھ رہی ہیں۔ پھول نکل رہے ہیں۔ فرمایا، تلاش تو کرو۔ شاید کوئی نکل آوے۔ مالی گیا تو دو بہت بڑے بڑے کدو لے آیا۔ دو عورتیں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ کدو دیکھ کر حیران ہوئیں اور کہا کہ بے موسمے کدو کیسے خوش نما ہیں۔ فرمایا، تمہیں پسند ہیں تو دونوں لے جاؤ۔

ترتر چھتر کا نام مکان شریف رکھا گیا

۱۲۷ھ میں آپ نے ترتر چھتر کا نام مکان شریف رکھا۔ آپ کے خادم غلام محمد نے عرض کیا کہ فلاں شخص ترتر چھتر سے آیا ہے۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ میرے سامنے پھر ترتر چھتر نام نہ لینا۔ خبردار مکان شریف کہنا ہوگا۔ میاں خدا کی رحمت کا مورد ہے۔ ملائکہ کے اترنے کا مقام ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ (پہا ۷)

ترجمہ: "جو اللہ کو رتبہ کہتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔"

وہاں سر وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دن سے مکان شریف مشہور ہے۔ رزق چھڑنا نام کوئی نہیں لیتا۔ رزق چھڑ صرف کاغذات مال میں مدفن آج صاحب مرحوم کی وفات کا صد مہ آپ کو اس قدر ہوا تھا کہ آپ کے کل اثاثہ کی از وقت سفید ہو گئے تھے اور آپ خضر صورت معلوم ہوتے تھے۔

۱۹ سوال ۱۲۶۲ میں آپ اصل باللہ ہوئے۔ ان دنوں برسات کا موسم تھا۔ قیوم العالم کو جب اس سانحہ ہوش ربا کی اطلاع ملی اور آپ کے دل پر اس واقعہ کا نگاہ کا بڑا صدمہ ہوا۔ اسی وقت پیارہ پاپل کھڑے ہوئے۔ خلقت کا ایک بہت بڑا ہجوم سمراہ تھا۔ ایک قیامت برپا معلوم ہوتی تھی۔ راستہ مہرا علی حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔

آپ نے خورق پہنچ کر حضرت بڈھن شاہ صاحب مرحوم کو غسل دیا اور سپر خاک کیا۔ انا انامہ دانا الیہ راجعون۔ آپ چالیس دن کلانور میں تشریف فرما رہے ختم چہلم پر آپ کی وصیت کے مطابق صاحبزادہ فرید الدین صاحب کی جائشینی اور دستار بندگی عمل میں آئی۔ کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کل مال متاع قیوم العالم کی نذر کر دیا تھا۔ آپ کا وصیت نامہ اب تک سجادہ نشین صاحب مکان شریف کے پاس محفوظ ہے جس کی نقل ذیل میں درج ہے :

نسب خود سید بطین شاہ ولد سید حیات علی شاہ بن سید حسین علی شاہ ترندی ^{کلمانی} لودھی
 اقرار کرد و اعتراف صحیح شرعی نمود مخبر باشم و در حالت صحت نفس و ثبات
 عقل و نفاذ جمیع تصرفات عقلیہ بریں وجہ کہ آنچہ مکانات سکنی و غیر سکنی و زمین
 ایماہ جات معانیات و چاہات آبخوشی و آبپاشی و اسپاں و چارپایاں و دیگر ممال
 موشی و نیز اسباب اشیائے قسم پارچات و نظرفانات و نسخہ جات کتاب ہا و نیز آلات
 سواری قسم رتھ و بہل و اعراب ہا و پیش و غیرہ ذالک کہ از داد ایندی جلتشانہ در قبضہ
 اقتدار این فقیر است۔ جناب معارف و حقائق پناہ حضرت مولانا و محمد و مناسبت اسادات
 سید ام علی شاہ صاحب جی احمدی مخدومی نقشبندی ادام اللہ برکاتہم ندریہ فی سبیل اللہ
 کردانیدم و بخشودہ داوم و عند اللہ تہیہ سے نمود و ہمہ بہک خود را در حق و ملک صاحب
 موصوف کر دم پس بچکس را از اقربا و وارثان این فقیر با سبب اشیائے و مکانات
 معانیات و اراضیات مذکورہ ہرگز و اصلًا و قطعًا واسطہ و عرض و مطلبے نسبت بنا
 بریں این چند کلمہ نوشتہ شد کہ عند الحاجة سند ساطع و صحت قاطع گردد۔
 تحریر تاریخ ۱۷ ماہ ربیع الاول ۱۲۶۱ھ بقلم بندہ بنی بخش لدفاضی اللہ ادامہ

العبد

سید بطین شاہ

گواہ شد

گواہ شد

گواہ شد

احمد بخش ولد کریم بخش

شمس الدین گلے زئی

بندہ محمد بخش و شیخ کریم بخش

باقرار صاحبان

باقرار جناب صاحبان

قیوم العالم نے بطور تحفہ تبیح و قلمدان لے لیا باقی تمام ال و اسباب صاحبزادہ صاحب

فرید الدین کے سپرد کر دیا۔ اصل تحریر حوالگی اسباب مکان تملیف میں موجود ہے نقل حسب ذیل ہے:

باعث تحریر این فتوہ بموجب قبطیہ این سطور است

چون جناب حقائق آگاہ و معارف دستگاہ حضرت پیر سید امام علی شاہ مرگاشریف
دولت برکاتہ بروز انتقال حضرت زبدۃ الاولیاء قدوة السالکین عرفان پناہ حضرت پیر
بدین شاہ کلانوری نور اللہ سرقدہ رونق بخش قصبہ کلانور گردیدہ احیائے مراسم تکفین و تعمیر مقبرہ
خرج لا بدی از مان دی خلایق فاتحہ خوال و ختم جہلم شریف آنحضرت مرحوم و مغفور و عبا
آوردند۔ خدا نکه بر افراد جمیع عباد اللہ را پسندیدہ آمد۔ یقین است کہ رضائے خالق ربیم
باعث باشد و درین ضمن قریب مبلغ یکصد روپیہ از گره شریف خود بخرج آورده اند و چون
حضرت شایب صاحب کلانوری در عین حیات خود کاغذ ہمہ نامہ بنام نامی آنحضرت نوشته
بودند و ہر چند موجب دلیل سند ہمہ نامہ وغیرہ کوائف بالکل مانک و داشت ترکہ حضرت پیر مستند
مگر مقتضای معلومتی و دریا ولی آبادی و معموری مکان کلانور مد نظر عالی داشته از جائیداد متروکہ حضرت
جنت مکانی بجز بیع سلیمانی کہ بطور عاریت از آل حضرت گرفته بودند و سوائے قلمدان
چیزے از دیگر قسم پارچات و ظرفات و مال و مویشی و نقد جنس وغیرہ نشاند بلکہ برائے
اخراجات درویشان این مکان درین جائے گذاشتند۔ مناسب است کہ ہر کس با زین احوال
واقفی و خبر لودہ باشد۔ گواہی خود بر این کاغذ ثبت کردہ بدید کہ عند اللہ ماجور و عند انکاس
مشکور خواهد شد۔ کان ذالک فی التاریخ ہفتم شہر ذی الحجہ ۱۲۶۱ھ مطابق ماہ بھاروں سہ ۱۹۱۲

گواہ شد

فقیر اکبر علی ولد سید عمر شاہ

بیان واقعہ درست است

گواہ شد

بندہ رحمت خاں آنچہ

ضمن است صحیح است

گواہ شد

خیر الدین

بیان واقعہ درست است

گواہ شد

انور شاہ آنچہ درین نوشتہ

است درست است

گواہ شد

فقیر علی محمد ولد سید سلطان شاہ

بیان واقعہ درست است

گواہ شد

نور محمد نمبر دار کلانور

بیان واقعہ درست است

گواہ شد

عطا محمد قانون گوئے کلانوری

مضمون ہمہ بیان واقعہ درست است

گواہ شد

غلام محمد آنچہ درین نوشتہ

است درست است

گواہ شد

بندہ رحمت خاں ولد دیدار بخش

کل بیان واقعہ درست است

گواہ شد

بندہ تقی خاں ولد محکم الدین حلقہ نشین حضرت شایب

بیان واقعہ درست است

گواہ شد

فقیر باب اللہ محمد درگاہی

گواہ شد

بندہ احقر العباد محمد بخش

بیان واقعہ صحیح و درست است

مزار مبارک کلانور میں زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔ بمصدق

اربابِ فنا زندہ جہانِ دیگر اند

آپ کے مزار سے برابر لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔

سید محمد حسین صاحب سجادہ نشین کلانور نے حضرت

مزار مبارک سے فیض

کے حالات کے متعلق میرے عرض و اصرار پر فرمایا کہ، اس سال کی عمر میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ان کی وفات اور خانگی تنازعات اور کچھ حالات کی ناموافقیت کے باعث میں نہایت معنوم تھا۔ حضرت کے مزار مبارک پر مراقب ہوا اور عرض کیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک سفید براق ہاتھ مزار مبارک سے باہر نکلا۔ پھر آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنا ہاتھ میری پشت پر پھیرا اور فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ خدا فضل کرے گا۔ چنانچہ آٹھ دن کے اندر اندر میری سب پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اب جب کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ تو آپ سے عرض کرنے پر دور ہو جاتی ہے۔

موضع سیکھوں متصل چک فاضیاں کے ایک شخص غلام حیدر نے بیان کیا کہ میں مرض گنٹھیا میں عرصہ تک مبتلا رہا۔ جب میں بہت لاچار ہو گیا تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کلانور لے گئے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں۔ مجھے آپ کے پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت غلام حیدر درو سے بہت ننگ ہے۔ آپ نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ صبح کو بیدار ہوا تو مرض کا نام و نشان نہ تھا۔

اس قسم کے واقعات عام ہیں۔ بخوفِ طوالت صرف ان دو واقعات پر اکتفا

کیا گیا ہے۔

نوٹ: افسوس کہ مولف سے ذکر مبارک کی آرزو پوری نہ ہو سکی

کیونکہ ۱۹۶۶ء کے ہنگامے میں دوسری جلد کا مسودہ تلف ہو گیا۔ انما شر

ذکر معدن فیوض

۶۱۹۸۰

گوہر شہوار بحر ولایت
حضرت سید امام علی شاہ

۱۲۰۰ھ

۶۱۹۸۰

فی رَوْضَتِ الْجَنَّتِ

۶۱۹۸۰

تھے ایک مردِ خدا حضرت امام علی!
تھا عکسِ اسوۂ اصحابِ پاک اُن کا چلن!
مطیعِ خالقِ کونین اور محبِ رسول
تمام اہل نظر جن سے فیضیاب ہوتے
طبیعت اُن کی زمانے سے بے نیاز رہی
شہنشاہی بھی جہاں آ کے سرِ جھکانی تھی
وہ ارضِ پاک، جسے سب کہیں مکانِ تشریف
ابھر رہی ہے جوڑہ رُہ کے میرے سینے سے

محب شاہ ہدیٰ حضرت امام علی
جلال شیر خدا حضرت امام علی
مطالع شاہ و گدا حضرت امام علی
ہیں سب کے راہ نما حضرت امام علی
تھے نشانِ فقر و غنا حضرت امام علی
وہ صدر بزمِ وِلا حضرت امام علی
ہیں اُس میں جلوہ نما حضرت امام علی
وہ دلنواز صدا، حضرت امام علی

قمر: وہ عالی مقدر ہے جس پہ فرما دیں
نشاہِ لطف و عطا حضرت امام علیؑ

بتاریخ: یکم ربیع الثانی ۱۴۰۰ھ

مطابق: ۱۸ فروری ۶۱۹۸۰



قمریہ ذوالی پنوانہ
ضلع سیالکوٹ

ذکر مبارک

(حصہ دوم)

آپ جانتے ہیں کہ "ذکر مبارک" کی دوسری جلد کا مستودہ ہنگامہ ۱۹۲۷ء میں ضائع ہو گیا تھا۔ اسی حصہ میں حضرت قیوم عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شرح و مبسط کے ساتھ مندرج تھے۔ خدا جانے اس میں کیسی قیمتی اور نادر معلومات تھیں جن سے ہم محروم ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

آج چالیس سال گزر چکے ہیں۔ افسوس کہ کسی صاحبِ علم نے قیوم عالم کا تذکرہ مرتب کرنے کی جرات نہیں کی۔ اس لئے فقیر نے مختلف مطبوعہ کتب کے مضامین "ذکر مبارک" کے ساتھ بطور ضمیمہ شامل کر دیئے ہیں۔ یہ مرتب شدہ تذکرہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کام کرنے کا فقیر اہل ہے۔ اس کام کی عظیم ذمہ داری صاحبِ سلسلہ اہل علم حضرات پر عاید ہوتی ہے۔ دیکھئے یہ سعادت کس خوش نصیب کے حصہ میں آتی ہے۔

پہلا مضمون "معیارِ اسلوں" (مصنفہ مولوی ہدایت علی بے پوری مرحوم) سے

مانخوڑ ہے۔

اور اٹلے حلقہ میں جو شخص غیر آپ کے سامنے ہو کر مسجد میں گزرتا، اس کے پیر کے دھکے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی، اور اس شخص چلنے والے پر نظر پڑ جاتی اگرچہ وہ آپ سے مرید بھی نہ ہوتا تو اس کا دل خود بخود ذکر خدا سے جاری ہو جاتا۔ اور وہ اس کو اپنی قبر میں ساتھ لے جاتا۔

اور بعض وقت کسی کو ایک ہی توجہ سے ولایت سے مشرف فرماتے۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ نے دریائے راوی میں زمین پر بیٹھے ہوئے ایک پٹھان خلیلی سے فرمایا "میاں تم کیا چاہتے ہو؟ تم کو ہمارے پاس بھڑے ہوئے بہت روز ہوئے، پٹھان خلیلی نے عرض کیا کہ حضرت میں دنیا چاہتا ہوں" حضرت سید صاحب نے فرمایا "میاں اچھا تم اتنی مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیا کرو۔"

قدرتِ خدا اس پٹھان خلیلی کو غیب سے چاندی بنانا سکھا دیا۔ وہ جب چاہتے جنگل سے چاندی کا ڈھما بنا کر لے آتے، اس خوشی سے وہ اور بھی موٹے ہو گئے۔ ایک روز حضرت سید صاحب کے مکان کی دیوار خام بن رہی تھی وہ پٹھان خلیلی بھی گڑھے میں سے مٹی کھود کھود کر اوپر دے رہے تھے۔ حضرت سید صاحب اس پٹھان خلیلی کے روزِ زمین پر بیٹھ گئے۔ اور ان کا کام دیکھتے رہے۔ نہ معلوم حضرت سید صاحب نے ان کے دل میں کیا اتقاء فرمایا کہ وہ پٹھان کام کرنے کے بعد سیدھے حجرہ میں جا کر بقاعدہ نماز رو قبلہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے سوائے وقت حاجت بیت الخلا حجرہ سے باہر نکلنا موقوف کر دیا۔ کبھی لنگری جو کھانا بانٹا کرتا تھا، کھانا لے کر جاتا تو تیسرے چوتھے وقت بہت تھوڑا سا کھا لیا کرتے اور ہر وقت شب در روز مراقب رہتے۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر میاں خلیلی سے پوچھا کہ تم چاندی بنانا بھول گئے ہو جو اس قدر مغموم اور چپ چاپ حجرہ میں بیٹھے رہتے ہو! جواب دیا خاں صاحب چاندی بنانا یاد ہے۔ مگر دل نہیں چاہتا۔ یہاں تک ان پر عشق شدید اور جذب کثیر غالب ہوا کہ اسی حالت میں چھ مہینہ تک وہ شب و روز مراقب رہے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ایک جام حضرت سید صاحب کے مرید تھے۔ ان کے سپرد بکریوں کو چرانے کی خدمت تھی۔ وہ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جنگل کی گھاس جسے کانس کہتے ہیں۔ اس کی نوکیں پالوڑ کو زخمی کر دیتی ہیں، اس گھاس نے ان کے تنگے پالوڑ کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا تھا وہ شخص لنگڑاتے ہوئے جناب حضرت سید صاحب کی خدمت شریف میں سلام کرنے کو حاضر ہوئے، آپ نے ان سے لنگڑا کر چلنے کا حال دریافت فرمایا، اور پھر اپنی نعلین مبارک (جو تھی) پہننے کو مرحمت فرمائیں۔ انہوں نے ان نعلین کو اٹھا کر چوما، اور سینہ پر ان کو باندھا۔ اسی وقت سے جذبِ ربانی پیدا ہوا، اور تازلیت میں عمل ان کا رہا، اور جب جذب کی زیارتی ہوتی تو وہ نعلین کا تلا زبان سے چاٹا کرتے۔ یہاں تک تلووں کو چاٹا کہ ان میں سوراخ ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔

مگر جس کو انہوں نے جو دعویٰ وہ خدا کی جناب سے رو نہ ہوئی اور جس دل پر توجہ فرمائی۔ وہ ذکر خدا سے متور ہو گیا۔ ہزاروں کو ان سے فیض پہنچا اور ہزاروں کے کام ان کی دعا سے نکلے اور ہزاروں کے دل قفسِ دنیا سے نکل کر عالمِ بالا کی طرف پرواز کر گئے۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں، ایک خاں صاحب جن کا نام عادل خاں تھا وہ شیخاواٹی کی انتہا اور پنجاب کی ابتداء پر کوئی گاؤں ہے، وہاں کے تھے، اور وہ انگریزی رسالہ میں نوکرتھے۔ وہ اتفاقاً مکانِ شریف کے قریب ہو کر کہیں جا رہے تھے حضرت سید صاحب کا حال سن کر سلام کے واسطے حاضر ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد بس وہیں بیٹھ گئے اور نوکری اور حاضری کی کچھ خبر نہیں، چھ ماہ بعد کچھ افاقہ ہوا تو اپنی چھاڑنی میں گھوٹے سمیت حاضر ہوئے، اور استغفا دینا چاہا، تو سب سوار بولے۔ عادل خاں صاحب تم نوکری اور قواعد روز مرہ کرتے ہو تم کو کوئی تکلیف نہیں پھر کیوں نوکری چھوڑتے ہو، انہوں نے فرمایا حضرت سید صاحب کی خدمت شریف سے چھ ماہ بعد آیا ہوں۔ پھر وہیں جاؤں گا لو کہ سن کر حیران ہوئے کہ روزہ مرہ قواعد میں اور پہرہ پر حاضر رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں چھ ماہ بعد آیا ہوں، عادل خاں صاحب یہ فرما کر چلے آئے اور دو تین برس حضرت سید

صاحب کی خدمت میں حاضر رہے۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ عادل خاں صاحب کو ایک ہی توجہ میں حضرت سید صاحب نے بندہ خاص بنا دیا تھا اور ایسا جذب کثیر خدانے ان کو عطا فرمایا کہ اگر وہ کسی وقت نظر غیرت یا غصہ سے درخت یا گھاس کی طرف دیکھ لیتے تو اس میں آگ لگ جاتی، وہ اکثر خاموش آنکھ بند کئے ہوئے مراقب بیٹھے رہا کرتے تھے خاں صاحب ہی نہیں بلکہ تمام طلبہ حضرت سید صاحب کے وقت حلقہ یا غیر حلقہ خدا کی یاد میں مستغرق رہتے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے سے استفادے خبر رہتے تھے کہ باوجود برسوں تک ایک جگہ رہنے کے نہ نامہ سے واقف ہوتا تھا اور نہ جائے سکونت سے اور یہاں تک خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے کہ اگر کسی کا کپڑا پھٹ جاتا تو اس کے سینے کی طرف مخاطب نہیں ہوتے اور اگر کسی کی جوتی گم جاتی تو اس کی تلاش میں نہ پھرتے نہ کسی سے کہتے عادل خاں صاحب جب بعد اجازت حالت ہوش میں آنے کے اپنے گھر گئے اور وہ اپنی ماں کے ایک ہی بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی والدہ کو کوئی خط بوجہ جذب کے نہیں لکھا تھا اور ان کی والدہ کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو ان کی والدہ ان کے فراق میں روتے روتے اندھی ہو گئی تھی۔ جب عادل خاں صاحب گھر پہنچے تو ان کی والدہ آواز سن کر ان کو ہاتھ سے ڈھونڈنے لگیں۔ تو عادل خاں صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ تمہاری آنکھوں میں کیا ہوا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے فراق میں روتے روتے اندھی ہو گئی ہوں عادل خاں صاحب نے جب یہ سنا تو ان کو جذب ربانی پیدا ہوا اور انہوں نے اثنائے جذب میں اپنا آبِ دہن والدہ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اللہ کے فضل سے ان کی والدہ کی آنکھیں اسی وقت روشن ہو گئیں۔ اسی واسطے حضرت مولانا رومی نے اولیاء کی شان میں سچ فرمایا ہے :-

اکہ و ابرص چہ باشد مردہ نیز نژدہ گرد از فسوں آن عزیز
اندھا اور کوڑھی تو کیا بلکہ مردہ بھی اس بندہ خاص کے دم کرنے سے زندہ ہو جاتا ہے
امر تسری میں ایک مولوی صاحب تھے جو قاری بھی تھے وہ اولیاء اللہ کی طرف اپنے
وقت میں نیک گمان نہ رکھتے تھے حضرت سید صاحب کے ایک خادم نے ان سے کہا کہ

مولوی صاحب کبھی آپ حضرت سید صاحب سے بھی تو ملو، انہوں نے کہا اچھا جمعہ ہے چلو آج جمعہ کی نماز وہیں پڑھیں گے، لیکن سید صاحب قاری نہیں ہیں اس واسطے ہماری نماز کامل نہیں ہوگی۔ اور آج فلاں قسم کے کھانے کو بھی دل چاہتا ہے۔ جب مولوی صاحب پہنچے تو حضرت سید صاحب کے ایک خادم بخاری عالم اور قاری تھے اور وہ بہت عرصہ سے مجوز تھے۔ ان سے حضرت سید صاحب نے فرمایا: مولوی بخاری صاحب تم قاری بھی ہو اور مولوی بھی ہو آج تم نماز پڑھاؤ تاکہ مولوی صاحب جو امرتسر سے آئے ہیں ان کی نماز کامل ہو جائے حضرت سید صاحب کے فرماتے ہی بخاری صاحب کا جذبہ فوراً جاتا رہا اور حالت ہوش میں آگئے اور انہوں نے نماز جمعہ کی پڑھائی۔ حضرت سید صاحب کے کشف سے واقف ہو کر مولوی صاحب امرتسر ہی بہت حیران ہوئے۔ جب نماز ہو چکی تو حضرت سید صاحب کے ارشاد سے وہ ممبر پر بیٹھے حضرت سید صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی مولوی صاحب ممبر پر سے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو حضرت سید صاحب کے پاؤں چومے۔ اور اپنی بدگمانی کی معافی چاہی اور بیعت ہو کر درجہ کمال کو پہنچے۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ذرو مومن کی فراست سے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے۔"

حضرت صاحب ایک روز تشریف رکھتے تھے کہ ایک گاؤں کا آدمی آپ کی خدمت شریف میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: "میاں کچھ وعظ کہو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں تو ان پڑھ گاؤں کا آدمی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں آپ نے فرمایا: "میاں کچھ تو کہو بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تم نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ تو کھڑا ہو جا۔ اس نے اپنی گاؤں کی پنجابی زبان میں کہا کہ خدا ایک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ میاں خوب عمدہ وعظ فرمایا۔ قدرت حق کہ چند روز بعد اس شخص کی قوت بیانی اس قدر بڑھی کہ تمام پنجاب میں اس کا شہرہ ہو گیا۔ اور کسی مذہب کا عالم عیسائی یا ہندو وغیرہ اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو اگر لکھا جائے تو بہت بڑی ایک ضخیم کتاب بھی کافی نہ ہو کیونکہ حضرت سید صاحب کے حالات و کرامات بہت کثرت سے ہیں جو اس کتاب میں بطور نمونہ لکھے گئے ہیں جو عقلاء اور طلبہ

کے لئے کافی ہیں۔ کسی نے ایسے ہی لوگوں کی شان میں خوب کہا ہے:

آنانکہ خاک را بہ نظر کمیاب کنند
وہ خاصان حق کہ جو مٹی کو ایک نظر سے
آیا بود کہ گوشہ چشم بیا کنند
کاش کہ وہ ایک نظر لطف و کرم
کیمیا بنا دیں، ہم پر کریں۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے کشف کا یہ حال تھا کہ جو سامنے کی چیز ظاہر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے اس سے زیادہ حضرت سید صاحب کو قریب اور بعید کی چیز بفضلہ تعالیٰ دل کی آنکھوں سے نظر آتی تھی۔ آپ جب حلقہ فرمایا کرتے تو ایک خادم حضرت کے پیچھے کھڑا رہتا تھا جہاں کسی کے دل میں ادھر ادھر کا خیال آتا تو آپ فوراً فرما دیا کرتے کہ میاں کیا کرتے ہو؟ خدا کی یاد کرو۔ اگر کوئی نیا آدمی کہ جو داخل سلسلہ نہ ہوتا اور وہ حلقہ میں آکر بیٹھ جاتا تو آپ سر مبارک اٹھا کر خادم کی طرف دیکھتے خادم سمجھ جاتا کہ کوئی غیر شخص مشرک حلقہ ہو گیا ہے چنانچہ خادم صفوں میں تلاش کر کے نئے آدمی کو لا کر پیش کرتا۔ آپ اس شخص سے فرماتے: میاں فقیر اس وقت اپنی قبر کی فکر میں ہے پھر اتنا ایک روز آپ بعد نماز مغرب حلقہ میں مراقب تھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فلاں سمت کو فلاں جگہ جاؤ اور ٹھنڈا پانی لیتے جاؤ اور اس نام سے پکارو، اور پھر اس کو یہاں ساتھ لے آؤ۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب آدمی اس طرف گیا اور پکارا تو اسی نام کا ایک شخص حضرت سید صاحب کی ملاقات کو آ رہا تھا، گھر راستہ بھول گیا تھا اور سخت پیاسا تھا اس کو پانی پلایا اور کہا کہ تم کو جناب حضرت سید صاحب یاد فرماتے ہیں وہ بہت خوش ہوا۔

ایک لڑکا حضرت سید صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ آیا تو حضرت سید صاحب نے فرمایا آج چند قسم کے کھانے پکاؤ۔ اور اس لڑکے سے فرمایا۔ میاں تم کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ بعد کھانا تیار ہونے کے حضرت سید صاحب نے اس کے ساتھ تناول فرمایا۔ اور بہت مہربانی اور کرم سے پیش آئے اور جب وہ جانے لگا تو کچھ دیر تک خلاف ماتہ آپ اس کو چھوڑنے کے لئے تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائے تو بڑے حضرت صاحب سے فرمایا "خاں صاحب اس کی ہماری آخری ملاقات تھی، کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ اس کا انتقال

ہو گیا اور پھر آپ سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے روز آپ کے پاس ہزاروں خادم سلام کو حاضر ہوئے اور ہر ایک خادم اپنے خلوص کے موافق روپیہ پیش کرتا۔ آپ اس پر دست مبارک رکھ دیتے اور وہ خادم روپیہ وہیں زمین پر چھوڑ جاتا، جو خادم روپیہ اٹھانے اور رکھنے پر مقرر تھے وہ جب دوبارہ آتے تو اسی قدر روپیہ جھولی بھر کر پھر لے جاتے۔

ایک شخص درویش کامل کی تلاش میں کابل سے ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ اتفاقاً وہ اس وقت موجود تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو بہت مالدار ہو گا۔ آپ نے فرمایا میاں صاحب یہ مال خدا کا مال ہے۔ خدا کے بندوں کے کام آتا ہے۔ میری ملک نہیں ہے یہ خدا کی ملک ہے۔ آپ بھی حسب ضرورت لے جاؤ۔ اس شخص نے اپنی سوء نطنی سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہو کر کمال کو پہنچا۔

آپ کی برکت اور فیضان سے زندہ ہی نہیں مردہ بھی امیدوار رہتے تھے۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جناب سید صاحب کے ہمراہ ایک گاؤں گئے جہاں حضرت سید صاحب کے اکثر مرید تھے حضرت سید صاحب نے نماز عصر پڑھی اور آپ ختم و دو شریفین کے واسطے بیٹھے۔ اتنے میں چند شخص سفید لباس پہنے ہوئے مسجد میں آئے اور یکے بعد دیگرے صرف جناب سید صاحب سے سلام و مصافحہ کر کے چلے گئے۔ لیکن ہم اور چند لوگ حیران تھے کہ ان لوگوں کو کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا اور یہ لوگ کھڑے کھڑے آئے اور چلے گئے۔ اور ہم مصافحہ بھی صرف حضرت سید صاحب ہی سے کیا۔ بعد حلقہ و مراقبہ ہم نے حضرت سید صاحب سے عرض کیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ آپ نے فرمایا اس گاؤں کے مردے تھے ملاقات کو آئے تھے بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سید صاحب کی قبولیت و عاکا یہ حال تھا کہ جو دعائے کسی کے لئے آپ نے کر دی وہ جناب باری سے رو نہیں ہوتی تھی۔

ایک روز ایک بڑھیا ستر سال کے قریب عمر کی جو پاؤں سے بھی کچھ مجبور تھی حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ حضرت میں اور میرا شوہر دونوں ضعیف ہیں اور میں پیروں سے بھی معذور ہوں، ہم دونوں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے

آپ دعا فرمائیں کہ خدا مجھ کو اپنے فضل سے فرزند عطا فرمائے۔ آپ سن کر مسکرائے اور جو حکیم صاحب خانقاہ میں طلبہ کے علاج معالجہ کے لئے رہا کرتے تھے۔ ان کو طلب فرمایا، حکیم صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو یہ بڑھیا کیا کہتی ہے۔ بڑھیا کی مرض کو سن کر حکیم صاحب بھی ہنسنے لگے اور عرض کیا کہ حضرت اس کے اولاد ہونے کے دن اب کہاں ہیں؟ اس کی آرزو قاعدہ حکمت سے بالکل خلاف ہے۔ بڑھیا حکیم صاحب کی گفتگو کو سن کر بولی کہ حضرت اگر میرے اولاد ہونے کے دن ہوتے تو میں یہاں کیوں حاضر ہوتی؟ یہ سن کر حضرت سید صاحب نے فرمایا حکیم صاحب وہ خدا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلا ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہ خدا جس نے بلا باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس ضعیفہ کو اولاد دینے پر قادر نہیں ہے بلکہ ضرور ہے، اور ضعیفہ سے فرمایا، اماں تم جاؤ فقیر دعا کرے گا۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تین یا چار سال بعد وہ بڑھیا آئی اور دو بچے ایک گود میں اور ایک کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور حضرت سید صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی دعا سے خدا نے مجھ کو دو فرزند عطا فرمائے۔ یہ قبولیت دعا اور قدرت حق کا نمونہ دیکھ کر سب حیران تھے بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضرت سید صاحب نے کسی ہا کے واسطے ہاتھ جناب باری میں دعا کے واسطے اٹھائے ہوں اور وہ کام نہ ہوا ہو۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ زندہ و مردہ انسان کیا، جانور بھی حضرت کو جانتے تھے۔ اور آپ کی خدمت سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت سید صاحب کے یہاں خانقاہ میں پے در پے تین وقت کا فاتحہ پڑھا گیا اور آپ کے اہل و عیال اور طلبہ اور جانور سب تین وقت بھوکے رہے جناب حضرت سید صاحب نے مجھ سے فرمایا "خاں صاحب تین وقت سب کو ہو گئے سب پریشان ہیں آپ ہماری سواری کی گھوڑی لے جاؤ اور فردخت کر کے اس کا سامان لاؤ یہ آواز گھوڑی نے سن کر گھاس کھانا بند کر دیا اور سست ہو کر گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی دہار جاری ہو گئی۔ حضرت سید صاحب گھوڑی کی یہ حالت ملاحظہ فرما کر خود بھی ننگین ہو کر سر

مبارک نچا فرما کر خاموش ہو گئے۔ اور پھر گھوڑی کے لیجانے یا فروخت کرنے کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ گھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک سیٹھ امرتسر کا حاضر ہوا، اور اس نے ایک مجال میں پانچ صد روپیہ اور کچھ کپڑا پیش کیا، جناب حضرت سید صاحب نے فرمایا، اے گھوڑی فکر مت کرتی قسمت کا خدا نے بیج دیا۔ یہ سن کر گھوڑی کو دے لگی اور خوشی خوشی گھاس کھانا شروع کر دیا۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سخت بیمار ہو گئے اور چہرہ جسم پر ورم آگیا اور طاقت اٹھنے بیٹھنے کی بھی نہ رہی۔ اور ہم نے جان لیا کہ تیرا وقت اخیر آگیا۔ اسی اثنا میں حضرت سید صاحب نے ارشاد فرمایا، خاں صاحب راوی دریا کے پرلے کنارے فلاں گاؤں میں فلاں شخص سے جا کر کہو کہ نگر خانہ کے واسطے لکڑی نہیں ہے۔ یہ ارشاد سن کر ہم بہت متفکر ہوئے کہ چلنے کی طاقت نہیں۔ درمیان میں دریا اور تعمیل حکم میں تاخیر باعث گستاخی اور بے ادبی ہے، چنانچہ فرمایا، کہ ہم ہمت کر کے لکڑی ہاتھ میں لے کر چل دیئے، ندی میں پاؤں رکھتے ہی کپ کپی چڑھی اور پھر قدرت خدا کیا دیکھی کہ جب زیادہ پانی میں چلا تو جسم میں سے سیاہ دھواں جیسا نکل کر پانی پر بہتا ہوا صاف معلوم ہوا۔ جب ہم راوی ندی کے پرلے کنارے پر پہنچے تو نہ ضعف تھا نہ ورم تھا نہ بیماری تھی۔ ہم بالکل تندرست ہو گئے۔

ایک لڑکا امرتسر سے آیا، اس کا باپ ساتھ تھا۔ اس کو تپ کہنہ روق، تھی۔ اور انتہائی درجہ پر پینچ چکی تھی، حکیم صاف جواب دے چکے تھے۔ اور اس لڑکے کے جسم میں سوائے ہڈی اور کھال کے کچھ نہ تھا، حضرت سید صاحب نے فرمایا کہو میں اچھا ہوں وہ بولا حضور میں تو سخت بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ میاں تو کہو میں اچھا ہوں اس نے کہا میں اچھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میاں تم بے شک اچھے ہو، الحمد للہ! آپ نے اس لڑکے کے والد سے فرمایا۔ اس کو میاں چھوڑ دو، چند روز بعد آنا۔ اس کا والد چھوڑ کر چلا گیا۔ کئی روز کے بعد جب آیا تو نگر خانہ کا کھانا تقسیم ہو رہا تھا چنانچہ اس لڑکے کا باپ بھی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اور بیٹا خود اپنے باپ کو کھانا اور پانی لالا کر دے رہا تھا۔ مگر اس کے باپ نے اس کو بالکل نہیں پہچانا کیونکہ اس کی شکل و صورت جو اس کے خیال میں تھی۔ وہ بالکل تبدیل ہو چکی تھی اور وہ لڑکا خوب موٹا اور توانا ہو گیا

تھا۔ حضرت سید صاحب سے اس کے باپ نے عرض کیا۔ حضرت میرا لڑکا کہاں ہے، ذرا اس سے مل لوں۔ آپ نے فرمایا! تم خود دیکھ لو، لڑکا باپ کے سامنے کھڑا تھا جس پر۔ باپ اس کے پیٹ گیا۔ اور سید صاحب کے پاؤں پر گر پڑا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے رمضان شریف میں افطار سے پیشتر مسجد میں عرض کیا کہ حضرت آپ کھانا میرے یہاں تناول فرمائیں، آپ نے فرمایا بہت اچھا، اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اور اس نے عرض کیا کہ بعد نماز حضور کھانا میرے یہاں نوش فرمائیں۔ اسی طرح سات آدمیوں نے بعد نماز مغرب کھانے کو عرض کیا اور آپ نے قبول فرمایا۔ ایک مولوی صاحب ولایتی حضرت سید صاحب کے مرید، یہ سب کیفیت اور آپ کے وعدہ سن رہے تھے۔ لیکن بوجہ پاس ادب کچھ نہ کہہ سکے مگر دل میں ان کے پریشانی ضرور تھی جب بوقت عشاء تراویح کو سب لوگ جمع ہوئے تو حضرت سید صاحب کے تشریف لے جانے اور کھانا تناول فرمانے کے سب شکر گزار اور تعریف کرنے لگے۔ پھر آپس میں ان لوگوں کے گفتگو ہونے لگی۔ ایک نے کہا کہ حضرت سید صاحب نے میرے یہاں کھانا کھایا۔ دوسرے نے کہا میرے یہاں، علیٰ ہذا القیاس سب کا کلام ایک دوسرے کے خلاف تھا۔ مولوی صاحب ولایتی یہ دیکھ کر اور بھی غلبان میں پڑھ گئے بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بعد فراغ نماز اشراق جناب سید صاحب ان مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ مسجد کے باہر ایک بیری کا درخت تھا آپ نے فرمایا مولوی صاحب ہماری صورت دیکھو، پھر فرمایا اس درخت کو دیکھو جب مولوی صاحب نے درخت کو دیکھا، تو جناب سید صاحب کی صدف شکلیں اس درخت کے اوپر موجود تھیں۔ مولوی صاحب نے جب یہ دیکھا تو ان کے جسم پر لرزہ پڑ گیا اور نہایت خاموشی کے ساتھ گرن جمعاً کر کھڑے رہے۔ تب حضرت سید صاحب نے فرمایا۔ مولوی صاحب تم تمام رات اسی پریشانی میں مبتلا رہے۔

فقر نے جسم خاکی کے ساتھ ایک ہی جگہ کھانا کھایا، مگر حقیقت انسانی جس کا قیام اسما و صفات الہی سے ہے باقی جگہ وہ موجود تھی، اور وہ وہ حقیقت ہے کہ اگر تمام جہان میں دکھائی دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

اسی طرح انوارِ لطائفِ شیخ کی شکل اختیار کر کے طلبہ اور غیر طلبہ کو ہدایت اور آگاہ کرتے رہتے ہیں۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب حضرت سید صاحب کی بیعت ہوئے۔ حضرت سید صاحب نے ان کو چھ مہینہ کے بعد ہی اجازتِ طریقہ عنایت فرمائی۔ ہمارے دل میں خیال آیا کہ چھ ماہ میں مولوی صاحب کی کیا تکمیل ہوئی ہوگی۔ اور حضرت صاحب نے ان کو مجاز کر دیا۔ یہ خیال جناب حضرت سید کے پاس ہی حلقہ میں پیدا ہوتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب زمین سے ترقی کر کے آسمانِ اول پر گئے اور میں بھی ان کے بعد ہی آسمانِ اول پر پہنچا تو مولوی صاحب آسمانِ اول سے آسمانِ دوم پر ترقی کر گئے۔ اور ان کے بعد دوسرے آسمان پر میں بھی پہنچا۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کو مولوی صاحب نے یکے بعد دیگرے طے کیا اور میں بھی ان کے بعد ہی پہنچا میں نے دیکھا کہ عرشِ معلیٰ کے نیچے بہت سے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان میں بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف رکھتے ہیں اور ایک حجرہ میں مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت شبلی بھی ایک حجرہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ مولوی آیا تو گرجے عشق آیا۔ اگر تلاوتِ قرآن پاک زیادہ کرتا تو خوب ہوتا۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ حال دیکھ کر جان گیا کہ تجھ کو جو مولوی صاحب کی اجازت میں شک لاحق تھا۔ اس کے رفع کرنے کو حضرت سید صاحب کے تصرف اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے اطمینان کر دیا۔ حضرت مولانا رومی نے جو اولیاء اللہ کے حال میں فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔

ہر دم اور ایک معراجِ خاص بر سر تاجِ شش ہند حق تاجِ خاص
بندۂ خاص ہر وقت معراجِ خاص سے مشرف ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سر پر اپنے فضل کا خاص
تاج رکھتا ہے

جسم اور بر خاک و روح در لامکان لامکان و جسم قصر سالکان
اس کا جسم خاک اس دنیا میں رہتا ہے اور روح عالم بالا میں ہوتی ہے وہی لامکان طالبانِ حق کا
مرکز و محل ہے۔

ایسے واقعات اور کشف اور حالات اور کرامات جناب حضرت سید صاحب کی لکھی ہیں تو ایک دفتر چاہیے۔

سب سے بڑی کرامت حضرت سید صاحب کی یہ تھی کہ ایک نگاہ بلا قصد جس مرید یا غیر مرید پر پڑی اس کا دل ذکر حق سے جاری ہو گیا۔ اور پھر قبر میں اس نعمت کو ساتھ لے گیا اور بعض بعض کو ایک ہی توجہ میں ولایت سے مشرف فرما دیا۔ اور اس کا سبب بڑے حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سید صاحب پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مہربانی اور کرم تھا بلکہ

بعض بعض وقت حضرت سید صاحب فرماتے: خاں صاحب یہ فقیر جو کچھ دین و دنیا کی دولت تقسیم کر رہا ہے، جانتے ہو یہ کہاں سے آتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے روضہ مقدس سے آتی ہے اور یہ دولت پھر سو برس کے بعد اسی طرح ظاہر اور جاری اور تقسیم ہوگی حضرت سید صاحب اپنے وقت کے مجدد صدی تھے۔ اسی واسطے آپ کی نسبت اور اجرائے طریقہ اور قبولیت دعا اور ہمت باطنی نہایت درجہ قوی تھی۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں آپ کا ہر ارشاد ہر فعل برکت و نور سے خالی نہیں تھا۔ اور آپ کی بات بات میں خرق عادت تھی، آپ کی خدمت شریف میں طلبہ ترکستان چین، کابل اور بہت سے ملک اور جگہ کے جمع ہوتے تھے۔ اور فیضیاب ہو کر جاتے تھے۔ اور نور باطن پھیلاتے تھے۔ اور بڑے بڑے عالم و فاضل آپ کے حلقہ میں حاضر ہو کر نور باطن اخذ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولوی مفتی مسعود صاحب پیش امام مسجد فتحپوری واقع وہلی آپ ہی کے اعظم خلفاء میں سے ہیں۔ اور مفتی صاحب کے بھی جو خلفاء ہوئے وہ بھی بفضلہ تعالیٰ با برکت صاحب نسبت بزرگ ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب کے خلفاء میں خاص خلیفہ حضرت مولانا رکن الدین صاحب الوری مد فیوضہ ہیں جن کا فیض اہل بصیرت سے پوشیدہ نہیں۔ علاوہ القائے انوار باطن کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت و کلام میں یہ تاثیر عنایت فرمائی ہے کہ اکثر بیسیوں غیر مذاہب کے لوگوں نے اسلام قبول کر کے اپنے دلوں کو نور باطن سے منور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور ارشاد میں اور ترقی فرمائے۔

حضرت مولوی مسعود صاحب کی تعریف کیا کی جائے کہ جن کے مرشد سید صاحب جیسے ہوں اور ان کے خلیفہ اور طالب مولوی رکن الدین صاحب جیسے ہوں۔ میں نے چاہا تھا کہ جناب حضرت سید صاحب کے خلفاء کی تعداد معین کروں اور معہ نام و پتہ کے لکھوں۔ اتنا مجھ کو معلوم ہے کہ حضرت سید صاحب کے خلفاء سو کے قریب تھے۔ مگر افسوس کہ میرے پاس کوئی ذریعہ ان کی مفصل کیفیت لکھنے کا نہ ملا، سنا ہے مکان شریف میں ایک کتاب قلمی، جناب سید صاحب، اور ان کے خلفاء کے حالات میں ہے۔ مگر صاحبزادے صاحب بوجہ محبت اور کسی خاص وجہ سے کہ جو ان کی معلوت پر مبنی ہے، کسی کو دیتے نہیں، میں جناب حضرت سید صاحب کے حالات اور لکھتا اور لوگ واقف ہوتے کہ یہ ذات بابرکات مجمع کمالات نائب حقیقی سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کیسی اللہ نے پیدا کی ہے۔ مگر میرا مقصد اختصار کتاب ہاتھ سے جاتا تھا، اس لئے بہت سے مختصر حالات کہ جو نہ ہونے کے برابر ہیں، لکھے ہیں۔ حضرت سید صاحب کے پیر بھائی سید بڑھن شاہ صاحب تھے جو نہایت مستجاب الدعوات تھے جو زبان سے کہہ دیتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا ویسا ہی ظہور فرما دیتا۔ مگر غفہ ان کی طبیعت میں زیادہ تھا۔ اس واسطے حضرت سید صاحب نے ان کو اپنے پاس سے علیحدہ رہنے کو فرما دیا تھا۔ ان کے غفہ سے لوگوں کو نقصان زیادہ پہنچتا تھا۔ حضرت بڑھن شاہ صاحب چھ سات کوس پر ایک گاؤں تھا۔ اس میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ مگر یہاں ادب حضرت سید صاحب کے گاؤں کی طرف نہ کبھی پیچھ کرتے تھے اور نہ کبھی تھوکتے تھے۔ ایک شخص کا دستہ حضرت سید صاحب کی دعا سے ضلع کے انگریز کے پاس سررشتہ دار ہو گیا تھا۔ اس کی رشوت کھانے کی اور پریشان کرنے کی شکایت اکثر سید صاحب کے مرید سید صاحب سے عرض کیا کرتے تھے۔ اور حضرت بڑھن شاہ سن سن کر دل میں آزرہ ہوا کرتے، اتفاق سے وہ سررشتہ دار حضرت بڑھن شاہ صاحب جہاں تھے وہاں کسی سرکاری کام کو آیا۔ اور حضرت بڑھن شاہ صاحب کے سلام کو بھی حاضر ہوا۔ حضرت بڑھن شاہ صاحب کو اس کی صورت دیکھتے

ہی عنقہ آگیا، اور اثنائے عنقہ میں فرمایا کہ تو حضرت سید صاحب کے مریدوں سے رشوت لے کر پریشان کرتا ہے۔ جن ہاتھوں سے تو ان کو پریشان کرتا ہے خدا تیرے وہ ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ بات سن کر وہ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور یہ حال عرض کیا۔ بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حال حضرت سید صاحب نے سن کر سکوت فرمایا، اور سر مبارک نیچا کر لیا۔ مقوڑی دیر بعد سر مبارک اٹھا کر فرمایا اے شخص تو جا، بڑھن شاہ کی دعا درجہ اجابت کو پہنچ چکی۔ اور اس درجہ اس نے قبولیت حاصل کی ہے کہ اب اس کا روم نہیں ہے۔ تو انتظار کر کہ یہ وقت تجھ کو کب پیش آئے۔ قدرت حق لاہور کی رطانی ہوئی پنجاب میں غدر سا ہو گیا۔ اس سررشتہ دار کے جنگل میں کسی نے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے۔

بڑے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنی حالت دکھانے کو حضرت سید صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تجھ سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ دعا اس کی قبول ہو چکی تھی۔ اب تو ایمان لے آ۔ اور یہاں رہا کر۔ چنانچہ وہ معہ بال بچوں کے ایمان لے آیا۔ اور وہیں اس نے اپنی عمر پوری کی۔

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

تذکرہ عقیدت مؤلف

منقبت جناب حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

امام علی ہیں حبیبِ خدا ہے جل و علاء
انہوں کی ذات سے آیاتِ بیناتِ قدیر
نگاہ جس پر پڑی ان کی ہو گیا واللہ
خزانچی خزانہ رسول پاک ہیں وہ
تصرفات عجیب و غریب مکشوفتاً
فضل خدا کا تھا ان کی دعا سے لپٹا ہوا
دعا کی جس کے لئے وہ ہوتی ضرور قبول
کرم نبی کا عنایت خدا کی ان پر بھی
تصرفات و کرامات الٰہی اتنے ہوئے
جناب سید والا کے کفش داروں سے
حسب نسب ہے انہوں کا نبی سے ملتا ہوا
مقامِ قال سے طالب بنائے اہل حال
مگر زبان سے نہ بولے خلافتِ شرعِ مرام
بیک نگاہ مقامِ فنا میں لاتے تھے
کمالِ قادرِ مطلق نے یہ کیا تعاطا
انہوں کے پاس سے زوری نہ چلا انعام
خدا نے فیض کا مرکز انہیں بنایا تھا
ہزاروں دل ہوئے روشن صدر ہا مقرب
امام علی ہیں علی اور فاطمہ کی نسل

رفیقِ امت احمد حبیب حبیبِ خدا
مقرین ان کے کمالات کے سبب پیر
ولی احمد مختار واصل باللہ
قسیمِ رحمت و نور رسول پاک ہیں وہ
خدا نے خوب عنایت کئے تھے انعامات
غضبِ خدا کا تھا ان کے غضب سے چپٹا ہوا
جو مدعا تھا کسی کا ہوا ضرور حصول
نگاہ بڑوں کی تھی حق کی نگاہ جن پر بھی
خدا کو علم ہے کیا جانے بندہ کتنے ہونے
خدا نے مردے جلئے بہت اشاروں سے
مثالِ معجزہ ان کا کمال ملتا ہوا
مقامِ کفرِ طریقت میں لا کے اہل حال
مثالِ حضرت منصور بایزید کلام
بیک نگاہ مقامِ بقا میں لاتے تھے
امام علی کو جو سید ہیں اور حبیبِ خدا
انہوں کے فیض سے مردے امید رکھتے تھے
شک کا دریا انہیں بہایا تھا
بیتِ نبی نایبِ امام علی الحق
امام حسین حسن زین العابدین کی اصل

انہوں کا خاصہ ہے بخشش و عطا و کرم
 انہوں کے رحم و سخا کا گواہ ہے ویر و حرم
 نذیر آتی ہے خاموش شو ضعیف بیان
 خدا ہی جانے خدا کا رسول ان کا کمال
 خدا پر چھوڑو اے ابوالفضل پناہ خیاں
 نعیم ہوا سے نعمت وہاں شفاعت کی
 اسی لئے ہے دعا حق سے یہ ہدایت کی
 آپ کی وفات ۱۳ شوال یوم پنجشنبہ ۱۲۸۲ھ درمیان عصر و مغرب ہوئی، مزار
 شریف مقام مکان شریف عرف رتر چتر پناہ، میں ہے۔

ملفوظات و کرامات

گذشتہ اوراق میں قیوم عالم حضرت امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات و مکشوفات وغیرہ کے بیان میں آپ کی چند کرامات قارئین پڑھ چکے ہیں۔ یہاں حضرت کے ملفوظات اور کرامات بطور تبرک مختصراً خزینہ معرفت سے نقل کی جاتی ہیں۔ (ناشر)

کلمات طیبات | آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ مریدوں کے دل میں اپنے شیخ کا ادب اس درجہ تک چاہیے کہ پیر کی مجلس میں بغیر اجازت بات نہ کرے۔

پیر کی طرف بے باکانہ نظر سے نہ دیکھے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیر کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہو۔ کیونکہ جس شخص کی زبان یا کسی اصفا سے پیر کے ادب کے خلاف کوئی فعل یا کلام سرزد ہو یا مرید کے دل میں پیر کے اور ادب کے خلاف خیال بھی پیدا ہو تو وہ مرید منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کل کمال ادب ہی ہے۔ جس مرید کے دل میں پیر کمال کے خلاف خیال بھی پیدا ہو وہ گویا پیر سے دشمنی رکھتا ہے اور دشمن کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ چونکہ شیخ کمال مریدوں کے نہیں بلکہ تمام جہان کے اندیشوں سے واقف ہوتے ہیں۔ بقول مولانا

شیخ واقف گشت از اندیشہ اش
شیخ ہمو شیر و دلہا بیشہ اش

اس لئے بے ادب مریدین دنیا کی نعمتوں سے محروم ہوتے۔
آپ فرماتے ہیں مرید کو چاہیے کہ شیخ کی مجلس میں اگر کوئی تذکرہ یا کلام شروع ہو تو اس سے چپے کر شیخ کا کلام سننے کے لئے دل و جان سے کان لگا کر متوجہ اور حاضر رہے۔ اور جو کچھ شیخ ارشاد فرمادے اس سے استفادہ کرے۔ شیخ کی مجلس میں کبھی بغیر امر کے سبقت کلام کی دلیری نہ کرے۔ کیونکہ بقول الشیخ فی قومہ کا لبتی فی امتہ یعنی شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اور نبی کی نسبت باری تعالیٰ اعزاز فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصِدُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ (پت ۱۳)

(اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔)

پس جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے اطاعت اور ادب اور استماع سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض تھا۔ ایسا ہی مریدوں کے لئے اپنے شیخ کا مجلس میں ہر ادب کو نگاہ رکھنا چاہیے کیونکہ پیر کے ارشادات کو مستنا ہزار کتابوں کے پڑھنے اور علم و ہنر سے بہتر ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ پیر کی مجلس میں کلام کرنے کی ضرورت ہو تو نہایت نرم اور موذب آواز اور طریقہ سے کرے کیونکہ باری تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (پت ۱۳) (اے ایمان والو! اپنی آوازیں

اوپر نہ کرو، نبی کی آواز سے۔) اور نہ ہی کبھی اپنے پیر کا

نام لے کر پکارے کیونکہ باری تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (پت ۱۳) (اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہہیں تمہارا عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ پس جو ادب باری تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ وہی امور شیخ کے ساتھ نگاہ رکھے۔ چونکہ شیخ قائم مقام اور نائب اور خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی پیر کی خدمت میں عرض کرنے یا کسی دینی یا دنیوی حاجت کے بیان کرنے کی ضرورت ہو تو وقت کا خیال رکھے اور جس وقت شیخ کو فارغ معلوم کرے اور اپنی طرف متوجہ پاوے عرض کرے کیونکہ ایسے وقت میں عرض کرنے سے شیخ کی طبیعت زیادہ رانگ ہوگی اور حصول مطلب میں جلد کامیابی نصیب ہوگی اور عرض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ادب اور قبولیت کے لئے دعا کرے۔ اگر پیر سے کوئی بات یا کام ایسا صادر ہووے جس کی سمجھ نہ آوے تو اعتراض نہ کرے کیونکہ شیخ کامل سے خدا اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی امر صادر ہونا ممکن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام

ملاقات جو قرآن شریف میں مذکور ہے یاد کریں۔

آپ فرماتے ہیں مرید کو چاہیے کہ کوئی کام دین یا دنیا کا شروع کرنے سے پہلے شیخ سے اجازت ضرور حاصل کرے۔ یہاں تک کہ کھانا پینا۔ سونا۔ جاگنا۔ کپڑے پہننا۔ چلنا۔ پھیرنا پیر کے حکم کے مطابق ہو۔ نیز عبادت میں سے نفل نماز، روزہ تلاوت قرآن مجید، پیر کے حکم کے مطابق اس میں لاوے۔ یہاں تک کہ اگر شیخ کامل مرید کو حکم دیوے کہ ذکر و شغل اور مراقبہ کے سوا صرف نماز فرض پر اختصار کرے تو واجب سمجھے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو شیخ مکروہ جانتا ہے اور ہر اس چیز سے کہ پیو کو جس سے نفرت ہو اس کا پرہیز کرے اگرچہ وہ اس کو محبوب ہی ہو۔ چاہے اس میں اپنا فائدہ دیکھے۔ نیز جن کاموں کو پیر کتابے بغیر اجازت پیر کے مرید کو نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مبتدی ہے اور شیخ منتہی ہے مبتدی بمنزلہ بیمار کہے اور منتہی بمنزلہ تندرست کے ہوتا ہے۔ تندرست جو چیز کھا سکتا ہے لیکن بیمار کو اکثر ان چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے۔ پیر کی مجلس میں کبھی اور او و وظائف و نوافل کے ساتھ مشغول نہ ہونا چاہیے۔ اور ہمہ تن پیر کے آداب اور نسبت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے

یونکہ بقول مولوی صاحب

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریاہ

آپ فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی صحبت میں جب مرید متوجہ پیر کی طرف ہر شغل سے دور ہو کر بیٹھتا ہے تو جو فیض اور انوار خدا تعالیٰ کی طرف سے پیر پر نازل ہوتے ہیں۔ مرید پر بھی وہی انوار چمکتے ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔

ما صب اللہ فی صدری شیئا

الا صبته فی صدر الی بکر

آپ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے کہ جس میں اوصاف ذیل موجود ہوں۔ محبت اور شوق کی آگ اس کی طبیعت میں خواہشات کو جلا دیوے۔ اور محبت کا درد اس کے دل کو بے قرار رکھے۔ جب صبح اٹھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ ہمیشہ عاجزی اور ناکامی اس کا

شعار اور عادت ہو۔ گذشتہ زمانہ کے اعمال سے ہمیشہ شرمندہ رہے۔ اور آئندہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ نیک کاموں کے لئے تقسیم اوقات کا پابند رہے۔ جو مصیبتیں یا اور تکالیف اور سختیاں پہنچیں صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اپنے تصور کا اقرار کرتا رہے۔ اور کوئی سانس ذکر الہی کے بغیر نہ ضائع ہو۔ کیا خبر کہ وہی سانس آخری ہو۔ اور اس فرقہ میں جو سانس غفلت سے گزرے اُس کو مردہ گنتے ہیں۔ حاصل کلام مرید کے لئے پیر کی صحبت اور حضوری تریاق اکبر ہے۔ ایک ساعت شیخ کامل کی صحبت میں حاضر رہنا ہزار سال کی خلوت اور عزالت سے بہتر ہے۔ کیونکہ مرید کو باری تعالیٰ جل جلالہ کی درگاہ سے براہِ راست اس لئے فیض حاصل نہیں ہوتا کہ مرید میں ارجحہ عناصر اور شہوات نفسانی مانع ہوتے ہیں اور پیر بنی منازل سے گذر کر واصل بحق ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے وسیلہ سے فیض یاب ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ پیر کی ہر دو طرف نسبت ہوتی ہے۔ پس مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے ارشاد کی تعمیل کو دین و دنیا کی بہتری کا سبب جانے۔ اگر حضوری میں ہو تو نسبت سے فیض یاب ہونا عنایت جانے اور صحبت سے دور ہو تو ارشاد کی تعمیل میں کوشش کرے اور ذکر و مراقبہ کی حالت میں تصور کے طریقے سے صحبت حاصل کرے۔ اور سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ کسی حالت میں بھی ذکر سے غفلت روانہ رکھے۔

آپ فرماتے ہیں توبہ ہر شخص پر واجب ہے بقول باری تعالیٰ عزوجل تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جُنُودًا مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (پہ ۱۰۷) اور اللہ کی طرف توبہ کرو لے مسلمانو! اب کے سب) دیگر فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (پہ ۲۰) اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔) اور فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ يَكْتُمُ السَّيِّئَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پہ ۱۲) بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو) وبقول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (مشکوٰۃ) گناہ سے توبہ کرنے والا اس آدمی کی طرح جس کا کوئی گناہ نہیں) آپ فرماتے ہیں کہ عوام کی توبہ ممنوعہ اشیاء سے باز رہنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اور خواص کی توبہ اپنی حالت کی نگہداشت ہے۔

خواص را توبہ بود از دید خود

عام را توبہ بود از کار بد

آپ فرماتے ہیں کہ توبہ اس طرح کرے کہ بعد توبہ کرنے کے گناہ کا خیال ہی اس کے دل میں نہ آوے۔

آپ نے فرمایا کہ توبہ کے بعد ایک صغیرہ گناہ کرنا توبہ کے پیلے سترگن ہوں سے بدتر ہے۔ کیونکہ توبہ کے بعد گناہ کرنا ایک توبہ کا توڑنا اور معاہدہ کی شکستگی ہے اور نقص عہد موجب نزولِ بلا اور سبب مسخ ہونے کا ہے۔ نقص توبہ سے بعض اوقات ایسی بلائیں اور آفتیں ظاہری اور باطنی نازل ہوتی ہیں کہ معاذ اللہ ان سے خلا ہی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے مشہور ہیں۔ اور قرآن شریف میں بھی مذکور ہیں۔ مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

نقص و مشاق و شکست توبہ ما!

موجب لعنت بود در اتہا

نقص توبہ عہد آں اصحاب مست

موجب مسخ آمد و اہلاک و دہشت

مگر آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس اُمت میں جسم یا چہرے کا مسخ ہونا خداوند کریم نے روا نہیں رکھا۔ لہذا توبہ کے توڑنے سے ان کے دل مسخ ہو جاتے ہیں۔ اور دیگر بار توبہ کی توفیق سے مسرور ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ

آپ فرماتے ہیں کہ مرید کو ہر حالت میں متوکل رہنا چاہیے۔ کام لاج میں مشغول رہے بیکار نہ بیٹھے۔ مگر رازق پروردگار کو سمجھے بلکہ خیال رہے کہ مولا کریم مقسوم رزق ہر حالت میں پہنچاتا ہے۔ روزی کے لئے فرمان الہی کو کبھی ہاتھ سے نہ دیوے۔ کیونکہ مقسوم سے زیادہ ملنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ اور نافرمانی کی وجہ سے خرابی دو جہاں میں مبتلا ہونا یقینی ہے۔ پس چاہیے کہ یقین کو چھوڑ کر مہوم کے لئے مصیبت میں مبتلا نہ ہوے۔

مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

ہین توکل کن طرناں پاؤد ست

رزق توبر تو عاشق تراست

گزرنا صبر کے بے رزق آمدے !
خولیش را چون عاشقان بر تو زدے

آپ فرماتے ہیں کہ سب عبادتوں کا معزاز مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پس مرید کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہ رہے۔ کیونکہ نماز عماد الدین اور مقصود اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ باری تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ وَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (پ ۱۷ ع ۱) کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور خدا کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ۔ (پ ۱۰ ع ۱۰) (میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو۔) اسی طرح قرآن شریف تلاوت اور حج سے بھی مقصود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بلکہ اصل اسلام اور افضل ارکان لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے اور یہ عین ذکر ہے۔ اور باقی جس قدر عبادات ہیں۔ سب ذکر ہی کی تاکید کے لئے ہیں۔ اگر ذرا غور کریں تو فوراً یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نماز بعض حالتوں میں جائز نہیں۔ حج خاص صورتوں میں فرض ہے۔ مگر ذکر کی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔

يَذْكُرُنَّ اللّٰهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (پ ۱۱ ع ۱۱) یاد کرتے ہیں خدا کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حال میں) اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَادْكُرْتِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُقِ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ۔ (پ ۱۴ ع ۱۴) (اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے ہو اور غافل نہ ہونا) اور ذکر کے مقابلے میں فرمایا۔ فَاذْكُرْ ذُنُبِيْ اَذْكُرْ كَمَا (پ ۱۲ ع ۱۲) تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ اس سے بڑھ کر ذکر کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور ذکر کا دل ذکر کی برکت اور نورانیت کی وجہ سے ماضی سے پاک جاتا ہے۔ جو عبادات کا اصل مقصود ہے۔ اس لئے سوائے فرائض کے مرید کو چاہیے کہ سب اوراد اور اشتغال پر ذکر کو ترجیح دیوے اور ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے۔ تاکہ باری تعالیٰ ذکر کی برکت سے دین و دنیا کے مقصود میں کامیاب کرے۔ اللّٰهُمَّ ارْتُقِنَا ذِكْرًا اَدَابًا يَّحَقُّ وَبِحَاہِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اٰمِيْنَ۔

ذکر کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ ذاکر ہر وقت آفت سے

مخفوظ ہے۔ ہر چیز غلوکات میں سے اس کی تابع ہوتی ہے اور اس سے مرعوب اور بے شمار عجائباتِ الہی سے اس پر مکشوف ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت امام ہمام ابو القاسم قمی شیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اور ہفتہ میں ایک دفعہ تھوڑا سا بقدر ہمدردی مق کھاتا تھا۔ میرے پاس کوئی شخص ہمیشہ آتا تھا اور آکرا سلام علیکم کہتا۔ مگر میرے دیکھنے میں نہ آتا۔ میں صرف سلام کا آواز سن کر جواب دے دیتا۔ ایک دن جب اس نے السلام علیکم کہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اچھا ہو اگر تو اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کرے تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ تو کون ہے؟ اچانک ایک نہایت خوبصورت شخص ظاہر ہوا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان جن ہوں۔ جب کسی تم جیسے ذاکر کو دیکھتا ہوں تو دوست رکھتا ہوں۔ اور زیارت و سلام کے لئے حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن ہمیشہ میرے پاس آتا رہا اور مجھ کو چند کلمات بھی اس نے سکھائے ایک دن میں نے اس سے کہا کہ چلو مسجد میں چل کر بیٹھیں اور چند باتیں کریں۔ چنانچہ مسجد کے آخری حصہ میں ہم دونو جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے کہا کہ لوگ مسجد میں موجود ہیں۔ ان کو کس طرح دیکھتا ہے تو میں نے کہا کہ بعض بیدار ہیں اور بعض سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میری آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے ملا۔ اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا ومن لیس عن ذکر الرحمن یفتن لہ شیطاناً فھو لہ قرین (پ ۲۵ ع ۱۰) اور جو اللہ کی نسیب سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں) یہ شیطان ہیں کہ جتنا کوئی شخص ذکر سے غافل ہے۔ اتنا ہی اس پر وہ مستولی ہے بَعُو بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (اس شخص کی پاہ) آپ فرماتے ہیں کہ وہ جن ہمیشہ میرے پاس آتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک صدقہ کا رقم کھایا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس نہیں آیا۔

آپ فرماتے ہیں، عادات و عبادات میں کتاب و سنت کو علماء و حنفیہ کی رائے کے مطابق اپناؤ اور عزیمت پر عمل کرو۔ شریعت و طریقت میں بدعت سے پرہیز کرو۔ نیز فرماتے ہیں۔ ظاہر اور پوشیدہ ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہو۔ دولت مندوں کی مجلس اختیار کرنے سے بچو اور اپنے تمام اوقات کو اللہ و رسول کی فرمانبرداری اور عبادت سے آباد رکھو۔

کرامات

اگرچہ آپ مقام اور مرتبہ اس سے بہت اعلیٰ ہے کہ آپ کے ذکر کو کرامات سے آراستہ کیا جاوے۔ کیونکہ حضور کی کرامتوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ یہ بات تھی کہ جو شخص بھی آپ کو دیکھتا ہزار جہان سے عاشق ہو جاتا کسی شخص کو طاقت نہ تھی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا یا جواب دیتا، ہزاروں مردہ دل آپ کی ادنیٰ توجہ سے اعلیٰ منازل اور مقامات پر پہنچے۔ اور بے شمار کفار نے آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہی زنا توڑ کر کلمہ شہادت پڑھا۔ اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ مگر یہاں پر چند ایک کرامتیں بطور نمونہ لکھنی ضروری ہیں۔ تاکہ آپ کا ذکر مبارک اس شعبہ سے معرانا رہے۔

آپ کے مریدوں میں سے حضرت میان صاحب مظہر جلال ذکر کرتے ہیں کہ ہم فوج میں ملازم تھے۔ جس روز شیر سنگھ دربار اندری واقع لاہور متصل مزار حضرت شاہ بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ قتل ہوا۔ ہم دو شخص فراش میں حاضر تھے۔ جب سانچہ ظہور میں آیا ہم ڈر کے مارے زینہ کے راستہ اوپر چڑھ گئے۔ ناگاہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پیچھے دو شخص سنگی تلواریں لئے ہوئے دوڑتے آ رہے ہیں۔ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ دل میں ہلاکت کا یقینی خیال ہو گیا۔ اسی حالت میں ذرا ذکر کی وجہ سے استغراق ہو گیا اور تلوار والا آدمی تلوار اٹھا کر مجھے قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ پھانگ میں نے دیکھا کہ حضور قبلہ تشریف لائے ہیں۔ اور میرا ہاتھ بکڑ کر اٹھا لیا ہے۔ میں نے اپنے میں کوئی جنتی نہیں دیکھی۔ مگر کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواجہ سعید صاحب کے گنبد میں بیٹھا ہوں۔ بس میں نے لاکھ شکر خدا کا کیا۔ اور دل میں یقین ہو گیا کہ یہ سب تعرفات حضور عالیہ سے ہے۔ اسی دن سے ملازمت چھوڑ کر حضور کی خدمت میں عمر گزار دی اور جو کچھ یہاں سے حاصل ہوا۔ وہ ذکر سے بلا ہے۔

ایک دفعہ ایک عورت اپنی ایک بیمار لڑکی کو حضور کی خدمت میں دعا کے لئے لے کر چلی۔

راستہ میں لڑکی فوت ہو گئی۔ اس عورت کی صرف یہی ایک لڑکی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ لڑکی کو لے کر اس ارادہ پر مکان شریف پہنچی کہ مکان شریف میں دفن کرے۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچی اور عرض کرنے لگی تھی کہ اچانک لڑکی کو جو دیکھا تو وہ بالکل تندرست ہے اور سابقہ بیماری کا بالکل کوئی اثر نہیں رہا۔ اور کھیلنے میں مشغول ہو گئی۔ ہزار ہا آدمیوں نے یہ کرامت آپ کی دیکھی۔

ایک شخص مسی زائین سنگھ جو چک رہا نہ میں رہتا تھا۔ اُسے ستر سال کی عمر میں فالج ہو گیا۔ چونکہ دولت مند اور امیر کھیر آدمی تھا بے شمار علاج کئے مگر کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ اور فائدہ ہونا ممکن بھی نہ تھا کیونکہ اصل طب کے مطابق ساٹھ سال کے بعد اگر فالج ہو تو لا علاج ہے۔ مترجم،

حضور کی خدمت میں ارادت اور دعا کیلئے لایا گیا۔ بجز زیارت کے اگر کیفیت فائدہ ظاہر ہوا کہ تمام اعضاء میں جس حرکت جاری ہو گئی جو کئی سال سے پار پائی سے نہ ہل سکتا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سات روز مکان شریف حضور کی خدمت میں رہا۔ اور بالکل تندرست ہو گیا۔ زمار توڑ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور کی بیعت میں داخل ہو گیا۔ اور کالمین میں سے ہو گیا۔ یہی شخص ایک روز جاڑے کے موسم میں لوگوں نے دیکھا کہ تیرہ کاسنی میں سکنجین ملا کر پی رہا ہے۔ اس نے بیان کیا کہ جس روز سے حضور کی نظر کیمیا اثر بندہ پر پڑی ہے۔ یہ حال ہے کہ بغیر سرد چیزوں کے استعمال سے آرام نہیں ہوتا۔ اور اپنے باطن کا حال جو اس نے بیان کیا۔ اس کو قلم تحریر کرنے سے قاصر ہے۔

حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کلانوری فرماتے ہیں۔ کہ ایک روز ایک ساربان حضور کے دولت خانہ پر حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت میرے اونٹوں کا بادشاہ اونٹ اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ اور سخت کا پتا ہے اور ہل جل نہیں سکتا۔ میں سخت غریب ہوں۔ اور میری روزی کا آسرا ہی پر ہے۔ اس وقت آپ خاص حالت میں تھے اور اچھا وقت بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا اونٹ تو بالکل تندرست ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضرت اگر میرا اونٹ تندرست ہوتا تو میں آپکو ہرگز تکلیف نہ دیتا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ تیرا اونٹ بالکل تندرست ہے۔ تیسری دفعہ اس نے عرض کیا کہ اونٹ در دولت پر حاضر ہے۔ تکلیف گوارہ فرما کر ملاحظہ فرمائیوں۔ سخت بیمار ہے۔ آپ نے دلہیز پر کھڑے ہو کر سامعین کو فرمایا کہ جا کر دیکھو اونٹ کو کوئی بیماری ہے؟ ان کے علاوہ ساربان نے بھی دیکھا کہ اونٹ بالکل تندرست ہے۔ اس نے اونٹ پر بوجھ ڈالا

اور دعائیں دیتا ہوا خوش خوش روانہ ہو گیا۔

مکان شریف میں بے شمار جذامی آتے اور حضور کے وضو کا پانی لے کر بدن پر ملتے اور بالکل تندرست ہو کر چلے جاتے۔ جن میں دو تندرست آدمی آجنگ مکان شریف میں موجود ہیں جو باوجود بدنی صحت حاصل کرنے کے روحانی صحت سے بھی مالا مال ہیں۔

ایک شخص کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کی دونوں آنکھیں چیچک کی وجہ سے نابینا ہو گئیں۔ حضور کی خدمتِ اقدس میں اس کے باپ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ایک ہی لڑکا ہے۔ اور کاروبار دنیاوی اور ذریعہ معاش کا دار و مدار اسی سے وابستہ ہے۔ وہ چیچک کی وجہ سے نابینا ہو گیا ہے بہر بانی فرما کر دُعا فرمادیں۔ آپ نے اپنے دہن مبارک کا لعاب اس کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اور حکم دیا کہ چند یوم رہ کر لعاب دہن آنکھوں میں ڈالیں چنانچہ دو تین بار ڈالنے سے وہ بالکل بینا ہو گیا۔

ایک زمیندار حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ میری بیوی دروزہ سے قریب المگ سے اور بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہوتیے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے جب وہ شخص گھر واپس گیا تو دیکھا کہ بیوی تندرست اور خوش و خرم ہے اور گود میں لڑکا لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ قوم ہنود میں سے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بدن پر ساہا سال سے اس قدر سوزش اور جلن تھی کہ ہر وقت کھن اور کافور بدن پر ملتا رہتا تھا اور اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بدن پر گویا آگ رکھی ہوئی ہے۔ وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ میں حضور کا نام سن کر حاضر ہوا ہوں سخت لاچار ہوں۔ آپ وضو فرما رہے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر پانی کا بیجا ہوا تھا اس کے بدن پر ملدیا۔ جس سے اس کا مرض فوراً اُٹھ ہو گیا۔ اور پھر تمام عمر عود نہ کیا۔

ایک شخص مسی میاں دل احمد ولد میاں قل احمد کا بیان ہے کہ میں ابتداء میں فرقہ واپسیر کی طرف میلان رکھتا تھا۔ اور اپنے ہم عقیدہ بعض واپسیروں سے سنا کرتا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکان شریف والے علم شریعت سے بے بہرہ ہیں۔ عام لوگ جو ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور علامہ زمانہ کلمۃ الحق کہنے سے چُپ ہیں۔ علامہ زمانہ ان سے دینی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لئے اصل بات ظاہر کرنے سے باز رہتے ہیں۔ مگر دوسری طرف لوگ آپ کی کرامات اور مناقب اس قدر بیان کرتے

جن سے انکار کی گنجائش نہ تھی۔ میں اس خیال سے مکان شریف روانہ ہوا کہ اپنی آنکھ سے چل کر دیکھوں اور کالوں کے سنوں کے اصل بات کیا ہے؟ میں مکان شریف آپکی خدمت میں حاضر ہوا اور چند روز صحبت عالیہ میں ملازم رہا۔ اس اثنا میں اس قدر کرامات حضور کی دیکھنے میں آئیں اور طریق زندگی آپ کی اسی طرح مطابق شریعت مطاہرہ کے پائی یعنی کہ تمام زمانہ میں سولے آپ کی ذاتِ دلا سے صفات کے مجال تھی۔ علوم شریعیہ میں آپ کو میں نے وحید عصر پایا۔ انکساری اور تواضع آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہابی لوگ ہمیشہ اولیاء اللہ کے خلاف کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ میں وہ سب صفات جو علماء حقانی اور اولیاء ربانی میں ہونی چاہئیں۔ میں نے سب دیکھیں۔ اُس وقت میں نے انکار اولیاء اللہ اور وہابیت سے فوراً توبہ کی اور بیعت کے لئے التجا کی۔ آپ نے کمال عنایت سے قبول فرمایا۔

ایک دفعہ میں اپنے گھر میں سخت بیمار ہوا۔ میں اور میرے اقربا زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اور سخت ضعف مجھ پر طاری ہوا۔ اس حالت میں حضور کی طرف میں نے خیال کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور شریف لے آئے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک اس قدر روشن تھا کہ تمام گھر منور ہو گیا۔ بجز زیارت فیض بشارت سے مجھے ایسی کیفیت حاصل ہوئی اور وجد ہوا کہ میں اپنے آپ سے گم ہو گیا۔ جب اس بخودی سے مجھے ہوش آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اٹھ کر حضور کی قدمبوسی کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی لٹے رہو۔ اور خاطر جمع رکھو کہ تیرا مرض خدا تعالیٰ نے دور کر دیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے بدن میں طاقت پائی اور مرض بھی اسی روز دور ہو گیا۔ آپ کی کرامتیں اصل فارسی کتاب میں درج ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اگر سب تحریر میں لائی جائیں تو ایک علیحدہ کتاب بن جاتی ہے۔ لہذا ان دو چار ہی کرامتوں پر تبرکاً اختصار کیا جاتا ہے۔

پیر روشن ضمیر

از مولانا نور احمد چنیوٹی

سلالہ ہے اولادِ حسین کا
 جگر گوشہ شاہِ بدر و حسین
 شرفِ عالمہ دو حورِ حیدری
 ہے نام اس کا مشہور اور منجلی
 امامِ علی پیر روشن ضمیر
 خبردار ہے ہر ملکوت کا
 زبیں چوں بلند اس کا پرواز ہے
 ہے وحدت کے دریا کا دریا یتیم
 شناور ہے ویلے لاریب کا
 کمال اسکا والایہ ادراک سے
 کہاں لائیں ہم ایسا فکر و فہم
 ہے جسم شریفش چوں جاں شریف
 لطیفِ مقدس سے جب وہ بنا
 وہ سب دلیوں کا آج سردار ہے
 جو تھا شجرہٴ نقشبندی کہن

خبردار ہے جد کے آئین کا
 گلِ سرسبز زمینِ حسن و حسین
 عجائبِ گل از گلشنِ سامری
 با طرافِ خواجہ امامِ علی
 بفلکِ ولایت چوں بدرِ منیر
 ہے ملاحِ کشتیِ جبروت کا
 وہ اوجِ ہویت کا شہباز ہے
 حقیقت کے بیشہ کا شیرِ عظیم ہے
 پیارا ہے بس عالمِ الغیب کا
 کہ سیر اس کا بالائے افلاک سے
 کمالات اس کے کرے جو فہم
 لطیفِ مقدس سے بھی ہے لطیف
 ہووے ہم سے کب اسکی مدح و ثنا
 مجدد کی نسبت کا مختار ہے
 ہوا اس سے سرسبز اور یخ و برف

وہ تختِ ولایت پر سلطان ہے آج
 اور اقلیمِ دل پر کسی کا ہے راج

سادات مکان شریف کے مختصر حالات

منقول از

تذکرہ بے مثل راجگان راجور

۱۳۲۵ھ — ۱۹۰۶ء

مؤلف: مرزا ظفر اللہ خاں اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر سب نج مرحوم

کتاب کا موضوع نام سے ظاہر ہے۔ راجگان راجور کا خاندان حضرت قیوم عالم سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید و عقیدتمند تھا۔ اس نے مؤلف نے اپنے خاندانی تذکرہ میں سادات مکان شریف کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ ہم بھی اس کے صفحہ ۵۰۷ سے ۵۲۷ تک کا پورا مضمون ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

مؤلف نے قیوم عالم قدس سرہ اور ان کے بعد کے جو حالات

تحریر کیے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنے ہوئے اور خود اپنی آنکھوں

دیکھے ہیں۔ اس لئے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ صاحب تذکرہ (مرزا

ظفر اللہ خاں) ۱۸۵۷ء میں بمقام ریلوے پیدا ہوئے۔ پرائمری تک تعلیم

وہیں حاصل کی۔ پھر مقوڑا عرصہ مکان شریف میں بھی پڑھتے رہے۔

اپنے نانا کے حقیقی بھائی مرزا غلام محمد خاں سے علم طب اور فارسی، عربی کی

تعلیم حاصل کی۔ قطب زماں حضرت سید صادق علی شاہ قدس سرہ کے

شاگرد و مرید تھے۔ اور علماء و صلحاء سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ مؤلف

نے اپنا تذکرہ کتاب مذکورہ کے صفحہ ۳۷۲ تا ۳۸۲ مفصل تحریر کیا ہے۔

(ناشر)

حضرت قطب الاقطاب نیر فلک ہدایت لم نیری سید امام علی شاہ صاحب

حسینی، السامری، القشندی، مجددی

اگرچہ اس مختصر کتاب میں حضرت اقدس کا ذکر دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے
لیکن اس خیال سے کہ اس خاندان کا بہت سا تعلق رہا ہے اور اب تک ہے۔ بہت
ہی اختصار اور ایجاز سے ہم بدیں امید ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث نجات
اور کتاب کے لیے موجب برکات ہو۔ اگر خدا نے توفیق رفیق کی تو ہم کسی وقت
حضرت اقدس کی سوانح عمری لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

حضرت اقدس کا شجرہ نسب امام جعفر ثانی، امام تقی، امام تقی الجواد، امام
علی موسیٰ رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، سید الشہداء
امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچتا ہے۔ حضرت کا دو زمانہ مندی سادات
عظام سے ہے اور شجرہ طریقت حاجی حسین شاہ صاحب سے شروع ہو کر حضرت
خواجہ معصوم اور وہاں سے حضرت خواجہ احمد مجد والی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں
سے خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اور وہاں سے حضرت امام جعفر علیہ اور وہاں سے حضرت
امام زین العابدین اور حضرت امام حسین اور منظر العجائب والغرائب حضرت علی ابن

لہ امام جعفر صادق سے خواجہ قاسم پیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم پیر حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک حسب مدارج بالا پہنچتا
ہے مگر صاحب "راجحان راجور" نے حضرت امام جعفر صادق سے حضرت علی رضی اللہ عنہما
تک پہنچا ہے جو شجرہ طریقت کے مطابق نہیں ہے (بناثر)

ابن طالب تک پہنچتا ہے۔ ہم نے ہر دو شجروں کا ذکر نہایت ہی مختصر طور پر کر دیا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے درمیانی نام چھوڑ دیئے ہیں۔ حضرت کے بزرگ اول (سید دانیال) حرمین الشریفین سے اٹھ کر سامرا نواح بغداد میں تشریف لائے اور ایک عرصہ دراز تک وہاں مقیم رہے۔ ۸۳۶ھ بعد سلطنت سید خضر خاں ولد سلیمان خان حاجی حرمین الشریفین سید دانیال بطور سفیر سیاحت ہندوستان میں تشریف لائے۔ دہلی میں آکر چندے اقامت کی۔ وہاں سے ایک بزرگ حاجی سید مسعود تھے۔ جنہوں سے ان کو اپنی دامادی کے شرف سے مشرف کیا۔ وہاں ان کے تین فرزند پیدا ہوئے۔ سید عفور، سید تغور، سید خواجہ حاجی سید مسعود کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ اس لیے اول الذکر ہر دو صاحبزادگان کو انہوں نے اپنے پاس بطور فرزندان رکھ لیا اور چند عرصہ کے بعد حاجی سید دانیال معہ سید خواجہ دہلی سے پنجاب کو آئے۔ موضع دہر موچک میں پہنچے۔ تو وہاں کارکنیں مسمیٰ تہراج لاؤدی کے غم میں مبتلا تھا۔ اس نے حضرت کو درویش کامل سمجھ کر بہت خاطر تواضع کی اور اس کی عورت نے بڑی التجا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا کرائی۔ آپ نے بعد دعا فرمایا کہ تم کو دو لڑکے تو ام پیدا ہوں گے۔ ایک سالم الاذن اور دوسرا بلا اذن یعنی بوجہ۔ یہ دوسرا لڑکا ہم کو دے دینا۔ ان دونوں نے بڑی سکرگزارگی کے ساتھ منظور کیا۔ پھر آپ وہاں سے آگئے۔ اور اس جگہ قیام کیا جو اب موضع زہر چھتر عرفہ مکان شریفیہ کے نام سے مشہور ہے اور متصل ڈیرہ بابا نانک ضلع گورداسپور میں واقع ہے۔ نو دس ماہ کے بعد تہراج کے گھر خدانے تو ام دو فرزند بخشے جن میں سے واقعی ایک بوجہ تھا۔ حسبِ عہدہ ان کے والدین نے بوجہ پسر حضرت

لے پہلے بوجہ کے والدین دوسرا بچہ لائے اور کہنے لگے وہ بیارہ ہے۔ اپنے فرمایا سارا تو وہی ہے چنانچہ گھر گئے تو بوجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کا نام لے کر اٹھایا تو مندرست ہو گیا۔ بچہ تو دیا مگر یہ کہا کہ اس کو درویش نہ بنا جاٹ بنا نا۔ چنانچہ وہ بچہ بہت بڑا زمیندار اور بزرگ ہوا۔

کی خدمت میں حاضر کر دیا اور وہ پیر لوجہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ حضرت ہی کی خدمت میں رہا۔ اس کی اولاد اب تک کئی دیہات میں آباد ہے۔ اور پیر لوجہ کی قبر بڑی شاندار بنی ہوئی متصل خانقاہ حضرت دانیال اب تک مکان شریف میں موجود ہے۔ حضرت دانیال بڑے مقبرک الانفاس زاہد عابد متقی تھے۔ آپ نے چالیس حج کیے تھے۔ حضرت دانیال نے ۸۹۶ھ میں انتقال کیا۔ ان کی تاریخ رحلت یہ ہے۔

حضرت دانیال شاہِ زمن
شہدیں مکانِ خلدِ بریں
بکیم و کاست گفت ہا لف غیب
سال ترحیل اوست خلدِ بریں

حاجی دانیال کے بعد اس کے فرزند سید خواجہ کاروبار زراعت میں مصروف ہو گئے۔ حاجی دانیال کے بہت سے مرید بھی آپ کی خدمت کرتے تھے۔ سید خواجہ نے ۹۰۲ھ میں رحلت کی۔ آپ کے واحد پسر ابوالعالی جانشین ہوئے۔ انہوں نے ایک گاؤں سلیم پور آباد کیا۔ جو بالآخر غیر آباد ہو گیا ہے۔ اور اب بھی ایک کنواں مکی والے کھوے کے نام سے اس کا نشان باقی ہے۔ ان کے چار لڑکے تھے۔ سید عارف، سید زاہد، سید بلاقی، سید ترضی۔ منجملہ ان کے سید عارف کے پانچ فرزند ہوئے جن میں سے سید شاہ محمد بڑے زاہد، متقی، صاحب علم و فضل اور باکمال مشہور ہوئے ہیں۔ سید شاہ محمد ۱۰۸۶ھ میں تولد ہوئے۔ بڑے ہو کر علوم ظاہری کی تحصیل کی۔ اس سے فارغ ہو کر علوم باطنی کی تکمیل کی۔ اور مجاز طریقہ ہو کر طریق دعوتِ حقہ الاسلام اختیار کیا۔ چند ہی روز میں آپ کا شہرہ عام ہو گیا۔ اطراف و اکناف عالم کے لوگ آتے اور فیض پاتے تھے۔ بعد چند بھائیوں سے کسی بات پر ملاک ہوا۔ آپ نے یہاں کی سکونت چھوڑ دی اور ہمیشہ جاؤا دسب بھائیوں کے پاس چھوڑ کر کسی طرف چلے گئے۔ مگر آپ کا شہرہ دور دور تک پہنچا ہوا تھا۔ آخر سب نے منت سماجت کی اور سردار ندھان سنگھ و راجہ گمنند چند والی ریاست چمبہ نے بوساطت شیخ قطب الدین آپ کو واپس

آنے کی درخواست کی اور عہدہ بیگمہ زمین بطور معافی پیشکش کی۔ یہ سند عطا کی
 معافی ۱۵ اسوج ۱۹۵۵ء کی ہے۔ پھر ہاڑ ۱۹۸۰ء عہدہ بیگمہ اراضی
 موضع جبہ میں اور عہدہ بیگمہ اراضی واسطے تعمیر باغ کے خاص رٹرن چھتر کے
 عطا کی گئی۔ اس کے بعد ۱۳ شوال ۱۹۸۰ء جلوس میں ایک پٹہ بابت موضع
 تنگل رائے چند و چندو معین پرگنہ کلانور کا مہرا اسد اللہ خاں بعد بادشاہ محمد غازی
 عطا ہوا۔ اور ایک پٹہ بحکم نواب سعید الدین خاں مہری راجھی سہائے و داور خاں عطا
 ہوا اور بہت سے دیگر مواضع میں زمینیں زر خرید کیں۔ کوٹ میاں صاحب والہ
 مسجد و چاہ و باغ تعمیر کیے۔ الغرض آپ کا عہد بڑے عروج کا تھا۔ آپ نے
 ۱۰ ماہ ذیقعد ۱۸۸۰ء میں انتقال فرمایا۔ آپ کے پانچ فرزند رشید تھے۔ کرم کریم۔
 لطف کریم۔ شاہ کریم۔ میر کریم فضل کریم۔ آپ کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے
 ایک مدرسہ دھرم کوٹ میں جاری کیا اور وہاں ایک پختہ مسجد تعمیر کی جو اب تک
 موجود ہے۔ سید لطف کریم نے ۱۸۶۱ء میں انتقال کیا۔ ان کے دو بیٹے تھے۔
 سید نذری۔ سید فرزند علی۔ سید فرزند علی کے دو پسران تھے۔ سید حیدر علی حکیم حازق
 سید مراد علی خود ملک سندھ کی طرف چلے گئے۔ اور یہ دونوں بچے نابالغ رہ گئے۔
 اس زمانہ بوجہ بادشاہ گردی و منازعت باہمی جاؤ داد و املاک جس قدر تھے برباد ہو گئے۔
 اراضیات پر مزارع ان نے قبضہ کر لیا۔ تھوڑی سی زمین خاص رٹرن چھتر کے ان سادات
 کے پاس رہ گئی۔ اور کچھ حصہ موضع چندو معین یعنی منج کا اور کچھ معافی زیر قبضہ
 رہی۔ سید حیدر علی شاہ صاحب کے گھر خدانے دو فرزند عطا کیے جن میں سے ایک
 آسمان رشد و ہدایت اور برکت و عظمت کا آفتاب عالم تاب ہونے والا تھا۔ یعنی
 حضرت اقدس مولانا محمد و مناسید امام علی شاہ صاحب ۱۲۱۲ھ میں رونق بخش جہاں
 ہوئے۔ اور ۱۲۱۸ھ میں سید غلام علی شاہ تولد ہوئے۔ ۱۲۲۶ھ میں سید حیدر علی شاہ
 نے انتقال کیا۔ اس وقت حضرت اقدس کی عمر چودہ سال کی تھی۔ اور غلام علی شاہ
 آٹھ سال کے تھے۔ حضرت نے حسب معمول تعلیم شروع کی ہوئی تھی۔ پہلے درسی

کتابیں مولوی فقیر اللہ صاحب دھرم کوٹی سے اور کتب طب حافظ محمد رضا صاحب کالہ والہ سے پڑھیں۔ اور کچھ کتابیں مولوی نور محمد صاحب چشتی مطالعہ کیں جو دت طبع اور ذہن کی رسائی ابتدائی سے انتہا درجہ کی تھی۔ جو ہم سبقوں کے لیے باعث رشک اور استادوں کے لیے باعث مسترت و مزید عنایت تھی۔ اشعار کا بھی ابتدا میں شوق تھا۔ اور خود بھی فی البدیہ شعر فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ ماجدہ ہر دو صاحب زادگان کو لے کر اپنے والدین کے پاس چلی گئیں۔ ان دنوں میں قحط نمودار ہوا۔ حضرت اقدس اپنے حصہ کا کھانا محتاجوں کو دے دیا کرتے۔ جب ان کے نانا صاحب کو یہ خبر ہوئی۔ تو انہوں نے بہت اور مہربانی سے دو چاند سے چند ان کا کھانا مقرر کر دیا۔ اور فرمایا کہ خود بھوکا رہنا مناسب نہیں ہے۔ دو ڈھائی سال کے بعد یہ صاحب زادگان مع والدہ ماجدہ واپس تشریف لے آئے۔ ان ایام میں حضرت حاجی سید حسین علی شاہ صاحب کلائے زمانہ سے مکان شریف میں تھے۔ یہ حضرت اقدس کے رشتہ میں بزرگ تھے۔ یعنی شاہ محمد صاحب کے پوتے اور میاں کریم کے بیٹے ایک دن حضرت اقدس کتاب بغل میں دبائے دھرم کوٹی جا رہے تھے۔ کہ حضرت شاہ حسین کی نظر عتاب پڑ گئی۔ و فوراً مہربانی سے فرمایا۔ صاحب زادے کون سی کتاب پڑھتے ہو۔ آپ نے عرض کیا کہ فلاں کتاب۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ کہ مثنوی مولانا روم صحت عقائد اور صفائی روح کے لیے برگزیدہ کتاب ہے۔ اس ارشاد نے دل پر گہرا اثر کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے چند ابیات مثنوی پڑھے۔ اور اس کے

لے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا محمد اعظم ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ تلاش حق میں حضرت اخون صاحب کے ہاں علاقہ پشاور جا رہے تھے، ایک رات مکان شریف ٹھہرے تو انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت قیوم العالم سندنا امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فی البدیہ درج ذیل شعر ارشاد فرمایا۔

در کوہ چہ می روی بمن باش
امروز معاذ اللہ جمل نیست

داش

مسنوں کی تقریر بہ طرز عارفانہ و عاشقانہ ایسی کی کہ حضرت اقدس تڑپ اٹھے۔ اور دل میں کچھ ایسی کشش پیدا ہوئی کہ جی بے اختیار ہو گیا۔ پھر تو یہ دیکھ کر ہو گیا کہ حضرت اقدس ہر روز حضرت شاہ صاحب کے حضور میں حاضر ہوتے۔ اور مثنوی سنتے۔ اور معنی مثنوی سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ اس طرح گزارا۔ آخر کشش صادق اور محبت نامہ پیدا ہو گئی۔ اور آپ نے شاہ صاحب سے بیعت کر کے خدمت گزاری پر روشن ضمیر کمر ہمت باندھ لی۔ شب و روز حاضر حضور رہتے اور مجاہد اور ریاضات شاقہ میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب سپاہیانہ اظہار کھتے تھے۔ ایک گھوڑا نہایت عمدہ ہر وقت پاس رہتا تھا۔ اور ہتھیار بھی زیب و تن رہتے تھے۔ حضرت اقدس نے گھوڑے کی خدمت اپنے ذمہ لی۔ صبح سے شام تک سوائے اوقات نماز کے گھوڑے کی خدمت کرتے۔ رات کو جب حضرت شاہ صاحب آرام فرماتے۔ تو آپ موضع کہنہ کی ڈھاب پر جو جنگل میں تشریف لے جاتے۔ اور تہجد کے وقت تک وہاں گوشہ تنہائی میں ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ نماز تہجد کے وقت آکر نماز صبح سے فارغ ہو کر گھوڑے کی خدمت شروع کر دیتے۔ گھوڑے کی لید اور پیشاب بھی زمین پر نہ کرنے دیتے۔ اور آپ خود اسے اٹھا کر حدود مکان شریف سے باہر پھینک آتے۔ غریزہ آقا رب یہ حال دیکھ کر بہت حقارت سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ مگر آپ نے کبھی اس کا غصہ نہ کیا۔ حضرت شاہ صاحب جب یہ واقعہ سنتے تو مسکرا کر فرماتے کہ یہ صاحبزادہ جو آج اس گھوڑے کا میلا اٹھاتا ہے۔ کل اس کا بول و برازا اٹھانا لوگوں کے لیے باعث فخر و مباہات اور ذریعہ نجات ہوگا۔ الغرض حضرت اقدس نے وہ مجاہد اور ریاضات شاقہ کیں جو آپ ہی کا حصہ تھا۔ کسی کسی روز فاقہ گزرتا۔ اور آپ کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ کسی دوسرے کان تک اس کی خبر نہ ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب اکثر اوقات سفر میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت اقدس معہ دو تین اور غلام کے ہم رکاب ہوتے۔ ایک بار حضرت شاہ صاحب علاقہ گڑھی کریال

بمقام سہوال حافظ محمود صاحب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ صاحب
 اس وقت گراں قدر مشائخ سے تھے۔ حافظ صاحب نے حضرت اقدس کے حق
 میں بہت لمبی دعا فرمائی۔ الغرض اس طرح کئی سال گزرے۔ ایک دفعہ حضرت
 شاہ صاحب موضع موڑہ کو تشریف لے گئے۔ جب معمول حضرت اقدس
 بھی ہمراہ تھے۔ آپ کے علاوہ ایک شخص غلام محمد بھی ہمراہ تھا جس پر
 حضرت صاحب کی مہربانی تھی۔ اس کے علاوہ اور خدام بھی تھے۔ گھوڑے
 کے علاوہ ایک بہلی بھی ہمراہ تھی۔ جس پر حضرت شاہ صاحب سوار ہوا کرتے
 تھے۔ اور اس کے چلانے کی خدمت غلام محمد کے متعلق تھی۔ ایک رات کو ایک
 مقام برگاؤں سے باہر قیام ہوا۔ حضرت شاہ صاحب قرآن نہایت خوش الحانی
 سے رات کو پڑھا کرتے تھے اور جس وقت طبیعت میں بے خودی پیدا ہوتی اور
 کوئی خاص وقت آتا۔ تو آپ وجد میں آکر مثنوی کے اشعار پڑھنے شروع
 دیتے۔ یہ ایک خاص علامت خاص وقت کی تھی۔ اس رات کو جب معمول
 آپ نے تلاوت قرآن شروع کی اور پھر بڑے زور سے مثنوی مولوی معنوی پڑھنے
 لگے۔ اسی حالت میں آواز دی کہ غلام محمد ہے۔ اپنی بد قسمتی سے غلام محمد کسی
 کے لیے باہر چلا گیا ہوا تھا۔ حضرت اقدس نے ادب سے عرض کیا کہ غلام
 نہیں۔ مگر غلام حاضر ہے۔ حضرت شاہ صاحب جواب سن کر پھر اپنے کام میں
 گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے غلام محمد کو آواز دی اور وہی جواب آیا کہ غلام
 تو نہیں غلام حاضر ہے۔ یہ سن کر پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد
 نے غلام محمد کو پکارا اور وہی جواب پایا۔ تب آپ نے فرمایا کہ جسے خدا
 اُسے کون روک سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ارشاد کیا کہ تم ہی آ جاؤ۔ حضرت اقدس
 طور سے حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا اور
 تک یہی حالت رہی۔ صبح صادق تک یہی بازار فیض رسانی و فیض گری گری رہا
 اور داد شد کلمات معنوی ہوا کی۔ صبح کو جب آپ بہلی پر سوار ہوئے اور

حسب معمول غلام محمد اسی خدمت کے لیے آگے بڑھا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب یہ مقام صاحبزادہ کا ہے اور حضرت اقدس کو بہلی پر سوار ہونے کا ارشاد کیا۔ حضرت اقدس بہلی پر چڑھے تو ایک طرف ہو کر بیٹھے تاکہ پیر کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب تم بلا تکلف بیٹھو۔ تمہاری پیٹھ اور منہ یکساں ہے۔ الغرض اُس وقت آپ نے حضرت اقدس کو مجاز فرمایا۔ اور اجازت دی۔ کہ اب ہمارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں۔ اب طریق ہدایت خود جاری کرو۔ مگر حضرت اقدس نے پیر کی مفارقت گوارا نہ کی۔ اور تا حیات حضرت شاہ صاحب کی خدمت بابرکات میں حاضر رہے۔ اب اگرچہ وہ خدمت اُن سے لے لی گئی تھی۔ اور آپ خاصان میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن آپ ہمہ تن مصروف خدمت گزار رہے۔ یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب نے رحلت فرمائی۔ حضرت اقدس پر اس دوری صوری کا صدمہ بہت شاق گزرا اور آپ نے آبادی چھوڑ کر عموماً جنگل میں رہنا شروع کیا۔ دو سال اسی طرح گزرے۔ اکثر حضرت شاہ صاحب کے متقین آپ کے پاس آتے۔ اور آپ کو مجبور کرتے کہ آپ طریق ہدایت جاری کریں۔ مگر آپ انکار کرتے۔ دو سال کے بعد حضرت شاہ صاحب نے خواب میں آپ کو سخت تاکید فرمائی۔ اور ارشاد کیا کہ خداوند کریم نے تم کو یہ دولت عظمیٰ اور نعمت بکبریٰ اس لیے نہیں دی کہ اس کو خزینہ دینہ کی طرح محفوظ رکھو۔ بلکہ تمہارا فرض ہے کہ اس دولت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ آپ گھر آگئے اور مکان شریف کو تشریف لائے۔ اسی رات کو حضرت شاہ صاحب نے سید بہادر شاہ صاحب اور میاں حبیب اللہ کو عالم رویا میں آنحضرت کے پاس حاضر ہونے کی تاکید اور ہدایت فرمائی تھی۔ جب حضرت اقدس مکان شریف تشریف لائے تو یہ ہر دو صاحبان حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ عرض کیا۔ حضرت اقدس نے ان کی تصدیق کی اور ان کو بیعت کی عزت سے مشرف کیا۔ اس روز سے اشاعتِ اربعہ اہم شروع ہو گئی۔ اور لوگ باریاب ہو کر فیض پانے لگے۔ ابتدا میں چند آدمی

مرید ہوئے۔ اس وقت مائی صاحبہ چکی پستی اور روٹی پکاتیں اور مریدین اور
 مسافریں کو کھلائی جاتی۔ پھر دن بدن معتدین کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو درویش چکی
 پیتے اور روٹی اندر سے پک کر آ جاتی۔ پھر اُس سے بھی کام نہ چل سکا۔ تب
 ایک خراس نگا گیا۔ جسے درویش چلاتے اور اٹا پسیا جاتا۔ اور نورنگا گیا جس
 میں روٹیاں لگائی جاتیں۔ رفتہ رفتہ یہ حالت ہوئی کہ دوین خراس رات دن چلتے
 رہتے اور دوین چار نور سر وقت گرم رہتے اور دیگیں گوشت اور وال کی چڑھی رہتیں۔
 اور سر وقت کھانا تقسیم ہوتا رہتا۔ لوگوں کا وہ رجوع ہوا کہ پنجاب، ہندوستان،
 افغانستان، بلخ، بخارا، ترکستان اور عرب کے لوگ جوق در جوق در اقدس پر پڑے
 رہتے تھے۔ امراء، علماء، صلحاء، حفاظ، قراء، تجار، زراعت پیشہ، الغرض ہر قسم کے
 سر ملک آدمیوں کا وہاں مجمع نظر آتا تھا۔ اور تمام باوجود مختلف ممالک مختلف اقوام
 اور مختلف امرجہ ہونے کے۔ ایک رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے تھے درویشی
 میں بادشاہی اور بادشاہی میں درویشی یہاں سی تھی۔ دنیا کی کوئی نعمت نہیں جو یہاں
 نہ تھی۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں جو یہاں نہ ملتی تھی۔ دیگیں جو روزمرہ چڑھتی تھیں۔ اتنی اتنی
 بڑی تھیں کہ دو آدمی ان میں بیٹھ کر صاف کرتے تھے۔ میں نے اپنی صغیر سنی کے
 وقت وہ آخری زمانہ دیکھا ہے۔ تین تین سو بکرا روزمرہ ذبح ہوتا۔ میں نے خود دیکھا ہے۔
 اسی پر باقی اجناس کا قیاس کرا چاہیے۔ اور جو اس ثروت اور تمول کے فقر و درویشی
 کا عجب نمونہ تھا۔ سب لوگ خاک نشین تھے۔ اپنے ہاتھ مٹی اور گارے کے کام
 کرنے سے بھی عار نہ تھی۔ کسی قسم کا تکلف نہ تھا۔ حضرت اقدس خود بالکل سادہ اور
 بے تکلف رہتے تھے۔ مٹی اور اینٹوں کی ٹوکریاں اٹھانا امراء، علماء، حفاظ، تجار باعث
 فخر اور موجب نجات سمجھتے تھے۔ ادب کا جو شان وہاں دیکھا گیا۔ دنیا میں کہیں اور
 نظر نہیں آیا۔ شغل و ذکر کا چرچا سر وقت رہتا تھا۔ کوئی لمحہ کسی کا بیکار نہیں جاتا تھا۔
 اوقات کی پابندی حیرت انگیز تھی۔ الغرض جو کچھ وہاں دیکھا گیا نہ کہیں دیکھا نہ سنا
 نہ آئندہ دیکھنے کی توقع ایک شان کبریائی تھی۔ میل، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، گدھے

بہلیاں، رتھیں، بگیاں، پاکی، نفس، ہوادار۔ سب کچھ اس قدر تھا کہ کسی ریاست میں بھی اس قدر نہ ہوگا۔ ہاتھی بھی رہے اور در اقدس پر بندھے رہے۔ الغرض خدا نے اس شاہ طریقت اور آفتاب ہدایت کو دینی اور دنیوی بادشاہت عطا کی تھی۔ نہایت عالیشان حویلی اور بہت بڑی مسجد باغ اور دیگر مکانات تعمیر ہوئے۔ تعمیر کا کام ہر وقت جاری رہتا ہے۔ باہر کثرت مکانات لوگوں کی بہتات سے پھر جائے رہائش کی قلت رہتی تھی۔ حضرت اقدس کے مزاج نہایت نفس بڑے معاملہ فہم تھے۔ سخاوت۔ علم۔ شجاعت۔ انکسار۔ تواضع۔ مروت۔ خاص کہ آپ کے حصہ کی چیزیں تھیں۔ آپ کے خرق عادات اور کرامات بے شمار تھیں جس خوش نصیب کو حضور کی سوانح عمری لکھنے کا فخر حاصل ہو۔ وہ ان تمام واقعات کو لکھ سکتا ہے۔ آپ کے چالیس خلفائے مجاز تھے اور ہزار ہا مرید۔ باوجود اس عظمت و شان کے آپ کے منہ سے کبھی نفاخ یا تعلیٰ کی بات نہیں نکلی۔ آپ ہمیشہ علماء اور سادات کا ادب کرتے تھے۔ ہر ایک مہمان کی اعلیٰ قدر مراتب تواضع ہوتی تھی۔ یہ بھی عادت مبارک تھی کہ ہر ایک مہمان کی رخصت کے وقت مشالیت کی جاتی۔ ہزاروں آدمی آستانہ مبارک پر پڑے رہتے تھے۔ اور کھانا اور کپڑا پاتے تھے۔ کبھی کسی امر کے لیے سوال نہیں کیا۔ ننگر میں کبھی تو گوشت پلاؤ ہوتا اور کبھی صرف خود ابلے ہوئے۔ کبھی ایسا وقت بھی ہوتا کہ فاقہ گزر جاتا۔ جو کچھ آتا خلق اللہ کے مصرف میں خرچ ہو جاتا۔ علماء اور صلحاء کی خدمت بھی نقد و جنس سے کی جاتی کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ باوجودیکہ آپ کی طبیعت نہایت نرم اور دل نہایت رحیم تھا۔ مگر عرب جلال کا یہ حال تھا۔ کہ ہزاروں آدمی مجلس میں جمع رہتے۔ مگر کسی کا سانس بھی اونچا نہیں نکلتا تھا۔ تمام حضار سر پر چادریں اوڑھے، سر خم کیے مراقبہ کی صورت دوزانو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب کوئی باہر سے آیا یا پاس سو قدم پر جوتا اتار دیا اور جہاں حضرت پر نظر پڑی وہیں ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ مجلس مبارک میں سوائے شریعت یا طریقت کی باتوں کے کوئی بات

نہیں ہوتی تھی۔ پنجگانہ نماز کا وقت عجیب رونق و برکت کا ہوتا تھا۔ بڑے بڑے
قرآء اور حفاظ کا مجمع رہتا تھا۔ یہ مضمون کہ نماز مسلمان کے لیے معراج ہے وہاں
ہی صادق آتا تھا۔ تمام نمازی محویت کے عالم میں ہوتے تھے۔ حضرت پانچوں
وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا فرماتے۔ رمضان المبارک اور دیگر بڑے دنوں
میں ایک خاص اہتمام ہوتا تھا۔ الغرض وہاں کا عالم عالم دنیا سے جدا ہی نظر
آتا تھا۔ ہر وقت انوارِ نبوت سے معلوم ہوتے تھے۔ مکان و مکین۔ آبادی و وحشت
ذکر الہی سے گونجتے رہتے تھے۔ اس خاندان کے تمام ممبر ۱۸۵۲ء میں آپ کے
حلقہ مریدی میں داخل ہوئے۔ ۱۸۵۵ء میں آپ کی اور آپ کے فرزند اعظم واقف
مخدوم عالم حضرت سید صادق علی شاہ صاحب کی شادی بمقام ریلوے۔ نجانبہ مرزا
محمد نواب خان و مرزا محمد یحییٰ اچال ہوئی۔ اور اس وقت سے اس خاندان کے تعلقاً
زیادہ تر بڑھ گئے۔ وفات سے پانچ سال پہلے حضرت اقدس کو وجع الفواد شروع
ہو گیا۔ ہر چند حکمائے حاذق و اطبائے لائق موجود تھے۔ مگر مرض میں کمی نہ ہوئی
اس وقت حضرت اقدس نے اپنے فرزند ارشد کو پیش امام مقرر کیا۔ حضرت اقدس
تکلیف کی حالت میں بھی مسجد میں تشریف لاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے
پانچویں سال رمضان المبارک میں تکلیف زیادہ بڑھ گئی۔ اور آپ نے ایسا اور اشارہ
سے اپنی رحلت کی اطلاع دے دی۔ باوجود تکلیف کے آپ ہر روز مسجد میں
تشریف لاکر تراویح بجا لیتے قیام فرماتے رہے۔ اس سال بھی حسب معمول دو بار
ختم قرآن ہوا۔ عید کی نماز حضرت اقدس نے تکلیف کی حالت میں پڑھی۔ اور
دولت سرا میں تشریف لے جا کر باہر قدم رنجہ نہ فرما سکے۔ مریدان خاص کی طلبی
کے خطوط لکھوائے گئے۔ جس کا سرنام یہ تھا۔ ”نماز فرض خدا قضا بود لیکن نماز صحبت

۱۰ اس خاندان سے ”راجگان راجور“ کا خاندان مراد ہے۔ ۱۱ (ناشر)

۱۲ علاقہ ریلوے ضلع کانگرہ میں ہے اور خاص کانگرہ سے اڑیل پانچ شمال واقع ہے۔

مارا قضا نخواہد بود۔ اکثر خدام عید پر اور اکثر بعد عید حاضر ہو گئے۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں آپ اکثر یہ آیت شریفہ پڑھا کرتے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ جس روز حضرت کا انتقال ہونا تھا۔ اس سے دو روز پہلے طبیعت میں کچھ آفاقہ ہو گیا۔ بعض خواص نے عرض کی کہ بہت لوگ مشتاقِ قدمِ بوسی میں اگر حضور تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے چلیں تو وہ تسلی یاب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ برسوں صبح باہر چلیں گے۔ وہ پرسوں کی صبح ایک قیامت خیز صبح تھی۔ جس میں یہ آفتاب ہدایت دنیا ظاہری سے چھپ گیا۔ اور آپ کا جنازہ باہر نکلا۔ انتقال کے روز عصر کی نماز تک اپنی تمام نمازیں اوقاتِ معینہ پر ادا فرمائیں۔ اور ہر ایک وقت وضو فرماتے رہے۔ اس روز عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ مصطفیٰ پر رو بقبلہ تشریف فرما تھے۔ حضرت مخدوم عالم فرزند اعظم کو رو برو طلب فرمایا۔ تجدیدِ بیعت کی اور آپ کو تلقین کی اجازت بخشی اور فرمایا کہ فقیر تمہاری توبہ کا گواہ ہے۔ اور تم میری توبہ کے گواہ رہنا۔ اس کے بعد کچھ وصیت فرمائی۔ پھر سید فخر الدین صاحب خلیفہ الرشید حضرت شاہ صاحب مرحوم اور سید احمد علی شاہ صاحب حکیم حاذق کو خلعتِ اجازت مرحمت کیا۔ اور پھر باواز بلند پڑھا۔ مَا تَشْفَعُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا اَلَمْ تَعْلَمِ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اس کے بعد براگن پر سر رکھ کر بحالتِ مراقبہ متوجہ الٰہی ہو گئے۔ خواص معتقد حاضر تھے۔ راجہ حمید اللہ خاں نے براگن پکڑی ہوئی تھی اور وہ جمعرات کا دن تھا۔ ۱۳ شوال بمطابق ۶ مارچ ۱۸۶۶ء ابھی آفتاب پورا غروب نہ ہوا تھا کہ یہ آفتابِ عالم تاب، رشد و ہدایتِ عالم اسباب سے غروب ہو گئی۔ براگن سے آپ گرنے کو تھے کہ سنبھال لیے گئے۔ نبض دیکھی گئی۔ تو طائرِ روح نفسِ عنصری سے آشیانہ جہاں کی طرف پرواز کر چکا تھا۔ کبرام مچ گیا۔ کسی کو سرو پا کی موش نہ تھی۔ جمعہ کی صبح کو حسبِ فرمان کہ ہم میسرے روز باہر چلیں گے۔ آپ کا تابوت باہر نکالا گیا۔ ہزار ہا آدمی جمع ہو گئے۔

اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کے جنازہ کو اٹھائے۔ صندوق کے ساتھ بڑے بڑے لمبے بالنس باندھے گئے۔ اور اس طرح سے عید گاہ کے میدان میں لا کر نماز جنازہ ادا کر کے محاذ مسجد حجرہ شریف میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد تمام مریدین اور معتقدین نے حضرت کے فرزند اعظم و اقدم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت اقدس کی بہت سی تاریخیں لکھی گئی۔ اور بہت سے مرثیے بنے منجملہ ان کے ایک یہ تاریخ ہے :

الاولیاء ما بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون

حضرت مخدوم عالم سید صادق علی شاہ صاحب مرحوم

حضرت اقدس کے دو فرزند ارجمند تھے۔ اعظم و اقدم مخدوم عالم حاوی فروع و اصول ماہر معقول و منقول حافظ قرآن حضرت سید صادق علی۔ دوسرے فضیلت و سنگاہ حقائق آگاہ صاحبزادہ میر لطف اللہ۔

(دوسرے) صاحبزادہ صاحب اس وقت بہت کم سن تھے تھے۔ حضرت مخدوم عالم حضرت کے جانشین ہوئے حضرت اقدس کے ابتدائی زمانہ میں ہی نماں مکان شریف میں مردانہ اور زمانہ درس جاری ہو گیا تھا۔ مردانہ مکتب کے لیے بڑے بڑے علماء جلیل القدر مقرر تھے۔ اور زمانہ مدرسہ کی استانی ایک نیک بخت صاحب عصمت و عفت عالمہ تھیں۔ مخدوم عالم نے حسب معمول تعلیم شروع کی چند عرصہ میں فارسی اور عربی کی پوری تحصیل کی۔ علوم ظاہری سے فارغ ہو کر علوم باطنی پر توجہ ہوئی۔ داخل حلقہ ہو کر بڑے مجاہدات اور ریاضیات شروع ہوئے۔ آپ عام درویشوں کے ساتھ گارے اور مٹی کی ٹوکری اٹھاتے اور دن بھر اس کام میں لگے رہتے۔ رات کو ذکر و شغل رہتا۔ جب یہ ابتدائی مراحل طے ہو گئے تو حضرت اقدس نے آپ کو چلہ میں بٹھلایا۔ رات دن ذکر و فکر رہتا۔ دن کو روزہ رکھا جاتا۔ پارہ نان جو جس سے افطار کیا جاتا۔ ایک پارہ نان جو جس سحری کے لیے ہوتا۔ مسجد کے حجرہ میں اس طرح چالیس روز گوشہ نشین رہے۔ اس محنت شاقہ اور کمی غذا

۱۷ سبحان اللہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا حق ان لوگوں نے ہی ادا کیا ہے۔

۱۸ اس گوشہ نشینی سے جاہل فقروں جیسی چلہ کشی مڑا نہیں۔ یہ حضرات سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح متبع تھے۔ گوشہ نشینی کے سامنے نماز باجماعت اور دیگر مسنون اعمال کی ادائیگی پابندی سے کرتے تھے۔ (ناشر)

سے جسم نہایت لاغر اور طبیعت سخت کمزور ہو گئی تھی۔ جس روز چلہ سے نکالا تو چلنے کی طاقت نہ تھی۔ پالکی میں آپ کو باہر لایا گیا۔ جب حضرت اقدس کے حضور میں حاضر ہوئے تو حضرت اقدس نے پانچ روپیہ بطور نذر پیش کیے مخدوم عالم شرم اور ادب سے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور حضرت اقدس کی طرف سے اصرار تھا کہ اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ۔ آخر یہ تعمیل ارشاد روپیہ تو آپ نے ہاتھ سے حضرت اقدس کے دست مبارک سے لے لیا مگر اسی وقت جذبہ کشش کی ایسی حالت ہوئی کہ آپ حضرت اقدس کے پاؤں میں گر گئے۔ اور دیر تک برقت طاری رہی۔ آپ نے اٹھایا اور سینہ سے لگایا۔ آہ کیا خوش نصیب وہ لوگ ہیں جس کا باپ ایسا ہو اور بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں کمالات حاصل کرے۔ اس کے بعد بھی تاحیات حضرت اقدس مخدوم عالم خدمت اور ریاضت شاقہ میں مصروف رہے۔ آپ کو سواری کا بھی شوق تھا۔ بیسیوں نہیں سنکر ڈال گھوڑے عمدہ سے عمدہ اصطبل میں تھے۔ آپ کو سواری میں مہارت تامہ ہو گئی۔ شہر سے شہر اور سرکش سے سرکش گھوڑا بھی آپ کے زیر ران آکر کان نہیں ہلاتا تھا۔ کبھی کبھی آپ مکتب میں جا کر مستعد طلبا کو سبق پڑھایا کرتے تھے۔

حضرت اقدس نے اپنی رحلت سے چند ماہ پہلے سب گھوڑے اور بولشی کچھ فروخت کر دیئے اور کچھ دے دلا دیئے۔ درویشان مقرب سے کسی نے عرض کی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر صادق علی میرے بعد بوجہ ضرورت ان کو فروخت کرتا تو اس کے لیے یہ بدنامی کا باعث تھا۔ اگر خدا نے اسے صاحب اقبال کیا تو خود بخود اس کے پاس سب کچھ آ جاوے گا۔ الغرض حضرت اقدس نے رحلت کے وقت آپ کو مجاز کیا اور اجازت نامہ تحریری دیا گیا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

آپ نے حضرت اقدس کے بعد پہلے مقبرہ نبلیے کی تجویز کی۔ مریدین اور معتقدین نے بہت سا روپیہ حاضر کیا۔ اس خاندان کی طرف سے بھی پانچ ہزار روپیہ

حاضر کیا گیا تھا۔ مقبرہ حضرت اقدس بڑا عالیشان تعمیر ہوا ہے۔ جس پر ایک لاکھ روپیہ صرف ہو چکا ہے مگر افسوس کہ ابھی تک وہ پورا مکمل نہیں ہوا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس عالی شان حویلی میں چند ہی عرصہ میں رات کو آگ لگ گئی اور صبح ہونے تک بے خبری میں آگ نے زور پکڑ لیا۔ حویلی بھی ایک عالیشان قلعہ تھا۔ اس کی آگ بھائی آسان نہ تھی۔ محذرات عصمت کو کچھ تھوڑے اسباب کے ساتھ اس سے نکال کر تنور والی حویلی میں لایا گیا۔ اور وہ تمام عالی شان مکان معہ اسباب و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ حضرت اقدس کا وہ خیال پورا ہوا جس کی وجہ سے آپ نے گھوڑے وغیرہ علیحدہ کر دیئے تھے تاکہ باپ کی کوئی چیز آپ کے پاس نہ رہے۔ اور سب کچھ نیا، خدا عنایت کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

مخدوم عالم نے حویلی کو اس سے بھی زیادہ عالی شان اور وسیع کر کے تعمیر کیا۔ گھوڑے مویشی وغیرہ سامان بھی خدانے پہلے سے کئی گنا زیادہ عطا کیا۔ عروج اور خرچ و اخراجات اور آمد حضرت اقدس کے وقت کے مطابق ہے۔ اور لوگ اس طرح جوق در جوق آتے اور فیض پاتے تھے۔ آپ نے بڑی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ اور ایک تصوف کے طریق پر تفسیر القرآن بھی لکھی۔ سجادہ نشینی کے وقت بھی آپ کبھی کبھی طلبہ کو سبق بھی دیا کرتے تھے۔ اس خاکسار کو دعویٰ علامی مریدی کے علاوہ شاگردی کا فخر بھی حاصل ہے۔ حضرت اقدس نے اپنے وقت میں کوئی زیادہ سفر نہ فرمایا تھا۔ البتہ ہر سال کلانور تشریف لے جایا کرتے تھے اور دو تین بار ریلو جانے کا اتفاق ہوا۔ مخدوم عالم نے امرتسر، لاہور، ملتان، دہلی وغیرہ مقامات کا سیر بھی فرمایا۔ مخدوم عالم کے خوارق عادت بھی بہت ہیں۔ حضرت مخدوم عالم آخر عمر میں اکثر علیل رہا کرتے تھے۔ آپ کے خلفا بھی بہت ہیں جو یدایتہ بالکمال ہیں۔

یہ تفسیر فارسی زبان میں صرف آخری پارے کی ہے، اس کا قلمی نسخہ حضرت علامہ مفتی محمد محمود صاحب الوری مدظلہ کے کتب خانہ میں حیدرآباد (سندھ) میں موجود ہے۔

آپ نے سنہ ۱۹۰۰ء میں اس دارِ فانی سے انتقال فرمایا۔ اور آپ کو حسبِ وصیت حضرت اقدس کے پہلو بہ پہلو اسی مقبرہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بعد ان کے فرزند کلال سید میر بارک اللہ صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ جو اب تک فیض رسانی کر رہے ہیں۔

اب ہم حضرت اقدس کی اولاد کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اقدس کے تین فرزند ان رشتید ہوئے۔ سب سے بڑے حضرت مخدوم عالم جن کا ذکر ہو چکا ہے دوسرے حضرت صاحبزادہ میر لطف اللہ صاحب ہیں، جو مرزا محمد نواب خاں صاحب کے دختر زادے۔ آپ نے مکان شریف میں اول تعلیم پائی۔ پھر وہلی میں جا کر تکمیل کی۔ حدیث فقہ اور دیگر علوم مروجہ کی باضابطہ تحصیل کی۔ بعد ازاں علوم باطنی مختلف کمالات حاصل کیے فی زمانہ ایسا بالکمال بے نفس، بے ریا شیخ دوسرا نظر نہیں آتا۔ بایں ہمہ کمالات بصوری و معنوی آپ نہایت منکر المزاج، حلیم الطبع، بے تکلف ہیں۔ آپ کے چار فرزند ارجمند ہیں۔ ابراہیم، محمد داؤد، محمد اداو علی، محمد عبید اللہ حضرت اقدس کا تیسرا صاحبزادہ بعالم رضاعت انتقال فرمایا تھا۔ مخدوم عالم کے چار فرزند ارجمند تھے۔ حضرت سید میر بارک اللہ سجادہ نشین، سید میر عبید اللہ، حاجی حرمین الشرفین سید میر آل رسول۔ مولوی سید میر علام رسول متولی مسجد و خانقاہ۔ سید میر عبید اللہ اور سید میر آل رسول حاجی غلط مرزا محی خاں کے دختر زادے تھے۔ میر عبید اللہ صاحب نے آغاز شباب میں بعارضتہ بیضہ انتقال فرمایا تھا۔ ابھی تک شامی بھی نہیں ہوئی تھی۔ سید میر آل رسول صاحب دس سال ہوئے کہ حج کے لیے بلا اطلاع تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ میں براہِ حصول اجازت کے لیے والدین مخدومین کے حضور میں عریضہ بھیجا چنانچہ اجازت مل گئی۔ پھر آپ نے مکہ شریف میں پہنچ کر ایک دو خط لکھے اور اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں بھئی۔ ہر چند تلاش ہوئی مگر آج تک اصل اور نچتہ پتہ نہیں لگے۔ حضرت میر بارک اللہ صاحب کو عربی کی پوری تحصیل ہے۔ مولانا مولوی

غلام رسول صاحب نے اول مکان شریف اور پھر دہلی میں جا کر تکمیل و تحصیل علوم عربیہ کی ہے اور آپ مسجد اور خانقاہ کے مثنوی ہیں۔ قرآن بھی حفظ کے قریب قریب یاد ہے۔ آپ بڑے خوش بیاں و اعظما اور زائد عابد ہیں۔ اب ہم مخدوم عالم کی اولاد بطور شجرہ نسب لکھتے ہیں اور اسی پر مضمون کا خاتمہ کرتے ہیں۔

(مخدوم عالم حضرت سید صادق علی شاہ صاحب اور دیگر خاندان کا شجرہ گزشتہ اوراق میں گزر چکا ہے۔ اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا)

مولوی قاری میر کرامت علی شاہ صاحب

ہم اس موقع پر اپنے مخدوم و مکرم استاد المعظم کا ذکر کرنا اپنے لیے باعث فخر و مباہات سمجھتے ہیں۔ بڑی ناسپاسی اور ناقدر شناسی ہوئی اگر اس سے قطع نظر کیا جائے۔ مولوی قاری سید کرامت علی شاہ صاحب کا سلسلہ نسب حضرت ائین کے ساتھ سید لطف کریم سے جا ملتا ہے۔ ہمارے پاس جو شجرہ نسب اور خلاصہ حالات مولانا مولوی غلام رسول صاحب نے بھیجا ہے۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ ایسے تنگ وقت کے باوجود مکرر استدعاؤں کے یہ عنایت مندوں ہوں کہ ہم کو بوجہ طبع کتاب دریافت مکرر کا موقع نہ ملا۔ یعنی واقعات میں درج ہے کہ لطف کریم صاحب کے دو صاحبزادے تھے۔ سید نذر علی فرزند علی اور سید فرزند علی کے پھر دو صاحبزادے ہوئے۔ سید مراد علی و سید حمید علی۔ مگر شجرہ نسب سے پاجاتا ہے کہ سید لطف کریم صاحب کے چار فرزند تھے۔ سید یار علی، سید نذر علی، سید مراد علی، سید حمید علی۔ الغرض سید حمید علی صاحب کے فرزند حضرت اقدس تھے اور سید مراد علی صاحب کے سید برکت علی اور سجاد سے استاد سید برکت علی صاحب کے فرزند المعظم ہیں۔ گویا حضرت اقدس نے چچا زاد بھائی کے ہوتے۔


علاوہ آپ کی شادی بھی حضرت اقدس کی صاحبزادی سے ہوئی۔

سید میر برکت علی صاحب ریلو میں مدتوں تک تشریف فرما رہے اور راجہ نادگان و مرزا زاوگان کی استادی کا۔ اور تعلیم کا کام بحکم حضرت اقدس آپ کے متعلق تھا۔ جب کبھی آپ رخصت پر وطن کو تشریف لاتے تو مولوی قاری میر کرامت علی صاحب آپ کے جانشین ہوتے۔ اس کے بعد میر کرامت علی صاحب وزیر آباد میں ساٹھ سال تک ہم لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ میرے ہم عمر سب آپ کی شاگردی کی عزت رکھتے ہیں۔

مولوی کرامت علی صاحب نے پہلے خاص مکان تشریف میں پھر پنجاب کے بعض دیگر مقامات میں اور بالآخر دہلی میں جا کر تحصیل علم کی۔ فارسی میں آپ پنجاب بھر میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ شاعرانہ مذاق بھی نہایت اعلیٰ ہے۔ تواریخ قصاید اور دیگر بے تعداد اشعار آپ کے موجود ہیں۔ عربی میں درجہ مولویت تک تعلیم ہے۔ قرآن پڑھنا آپ کا خاص حصہ ہے۔ پڑھانے کے جو گرو اور ترکیب آپ کو یاد ہے دوسرا کوئی اس پایہ کو نہیں پاسکتا۔ تمام عمر یہی تعلیم کا کام کیا ہے۔ آپ کے دو صاحبزادوں کی شادی مخدوم عالم کی پوتیوں اور میر آل رسول صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس خاندان کے ساتھ تعلق رشتہ داری بھی ہو گیا ہے۔ اب ہم میر برکت علی شاہ صاحب کا شجرہ نسب لکھ کر ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کی اولاد کا حال معلوم ہو جائے:

شجرہ

میر برکت علی شاہ صاحب



ایک نادر تحریر

دخوت ایک قلمی تحریر سید مظہر قیوم رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین سوم کی ہے۔ اس میں حضرت سید صادق علی، سید میر بابر اللہ سید میر غلام رسول رحمۃ اللہ کے حالات مختصراً درج ہیں۔

قدوة السالکین حضرت سید صادق علی شاہ صاحب سقی اللہ تیراہ و جعل الجنة شواہ کی ولادت ۱۲۵۰ھ میں ہوئی۔ آپ نے اکثر علوم عربیہ مثلاً فقہ، صرف، نحو، منطق، حکمت وغیرہم مولوی غلام علی صاحب ساکن موضع لدھیوالہ ضلع گوجرانوالہ سے اپنے گاؤں قریہ طیبہ مہکان شریف میں ہی تحصیل کیا اور کتب حدیث کی سند فاضل مقام مولانا محمد مسعود صاحب جو کہ دہلی کے مشہور و معروف اساتذہ اور اعلیٰ حضرت معذور کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ ان دنوں جبکہ فاضل ممدوح اپنے پرنسپل گوار کے آستان ہدایت نشان پر بعض استفادہ و استفاضہ قیام پذیر تھے، احوال کی بعد از فراغ علوم عقلیہ و نقلیہ اپنے گرانمایہ اوقات کا خاص شغل اشتغال فی الحقیقت و النظر حقیقت کر رکھا تھا۔ اور آپ کی بے بہا جدوجہد کتاب علوم باطنی کے حصول و اخذ فیضان کے درپے تھی۔ حتیٰ کہ قلیل مدت میں ہی سلج طائف کیا بلکہ جملہ مراتب سلوک طے کر کے مجاز طریق ہوئے۔ آپ اپنے والد بزرگوار قطب الاقطاب خواجہ حضرت سیدنا امام علی شاہ صاحب قدس اللہ اسرارہم کے ارحام قلوب استعمال کے بعد ۱۲۸۳ھ میں جانشین ہوئے۔ آپ کے سجادہ نشین ہونے سے بیس سال تک یہ مکان بڑا عروج و ترقی پر تھا اور ہزار ہا خلق مشرک شمار معرفت و نتیجہ نتایج حقیقت ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ کی ذات ملائک صفات کے وجود باوجود کے باعث اس مکان کو خاصی ترقی ہوئی۔ انہی کے زمانہ میں حضرت غوث الاعیاض سیدنا امام علی شاہ صاحب کا مزار پراوار جو کہ پنجاب اعظم میں اپنی بلندی اور بہتری میں نظیر نہیں رکھتا تیار ہوا۔ لیکن بعد ازاں کچھ باہمی شکر نبی

ہونے کے باعث نسبتاً کچھ کمی واقع ہو گئی۔ اگرچہ آپ کی توجہ تصنیفِ تالیف کی جانب نہ تھی تاہم تفسیر پارہٴ عم فارسی تصوف میں تسوید فرمائی جو قابل تحسین ہے۔ آپ پینتیس سال مستدار شاد پروا علی اے اللہ رہ کر آخر تاریخ ۲۱ رجب المرجب ۱۳۱۶ھ مقدس شب یکشنبہ بعارضہٴ بخار و استسقاء اس دار فانی سے اعلیٰ علیین کو سدا رہے۔ آپ کی وفات پر آپ کے صاحبزادے خورشید حضرت مولانا میر غلام رسول شاہ صاحب علیا الرحمۃ والغفران نے مختصراً ایک قطعہ لکھا ہے جو تحریر ہے:

قطعہ

چو صادق علی پیشوائے زمن
 بہ یکشنبہ رفتہ در ذوالمنن !
 ز ماہ رجب بست دیک بر شمار
 کہ رفتہ ازین دار دارالمحسن
 غلام رسول از پئے سال او
 بگفت الغفور ست اے جان من

۱۳۱۶ھ

حضرت میر بارک اللہ صاحب منفور ۱۳۴۵ھ میں تولد ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت واہ میر شارت علی سے بحساب حروف ابجدی برآمد ہوتی ہے۔ آپ نے علوم متداولہ کی تحصیل مولوی گنج بخش صاحب ساکن جنڈیالہ ڈھاب والہ ضلع گوجرانوالہ سے کی۔ بعد ازاں اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا صادق شامصاحب سے بیعت کی۔ اور چند ہی مدت میں تمام مراحل سلوک طے کر کے حضرت مجدد

لے اس کا قلمی نسخہ حضرت قبلہ مفتی محمد محمود صاحب مظللہ اوری (ابن مولانا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس حیدرآباد (سندھ) میں موجود ہے (ناشر)

سے ہی مجاز طریق ہوئے۔ ۱۳۱۷ھ کو بعد وفات حسرت آیات آنحضرت
 مسند ارشاد پر جاگزین ہوئے۔ جملہ اہل پنجاب عموماً اور علاقہ مار کے لوگ خصوصاً
 خوش اعتقاد اور مرید تھے۔ جو دو سنا عزابا و مساکین کی پرورش آپ کے مزاج
 و ہاج کا جلی نتیجہ تھا۔ آپ بیس سال سجادہ نشین رہ کر تاریخ ۲۰ محرم الحرام
 شب یکشنبہ ۱۳۳۷ھ بعارضہ تپ و ذات الریح و اصل بائسہ ہوئے۔
 آپ کی وفات کا قطعہ تاریخ تحریر ہے:

قطعہ

بارک الشدولی و فخر زماں !
 چوں بملک قدم بگشت پرواں
 خون نشان چشم مردماں بفسراق
 آسمان و زمین ہم بوفساق
 طوطی طبع سید منظور !
 بہر سالش بگفت ہو مغفور

۱۳۷۳ھ

حضرت مولانا بالفضل اولانا سید میر غلام رسول صاحب علیہ الرحمۃ والنعمران
 ۱۲۸۰ھ مقدس میں تولد ہوئے۔ جو دست و ذہانت طبع آپ کا خاص ترین
 بہرہ تھا۔ چنانچہ علوم عربیہ و فارسیہ کی تحصیل مولوی گنج بخش صاحب سے کی۔
 اور کتب صحاح کی سند حاصل بے بدل مولانا محمد مسعود صاحب جو کہ دہلی کے اعلیٰ ترین
 فضلا سے شمار ہوتے تھے۔ خود دہلی تشریف لے جا کر حاصل کی اور بعض کتب
 مخلقہ منطق و حکمت مولوی محمد اسحاق صاحب منطقی سے وہیں پڑھیں۔ بعد فراغ
 علوم عقلیہ و نقلیہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت سید صادق علی شاہ صاحب
 سے بیعت کی۔ اور قلیل مدت میں تمام منازل و مراحل سلوک و معرفت طے کئے
 اور بالکلیہ اخذ فیوض و برکات کر کے آنحضرت سے ہی مجاز طریق سلسلہ عالیہ

نقشبندی ہوئے۔ آپ اپنے زمانہ کے بہترین علماء و صلحا میں سے وحید العصر تھے۔ اہل پنجاب آپ کے علم و فضل کے معترف و مقرر تھے۔ اور ضلع گورداسپور کے اعلیٰ ترین مفتی۔ چنانچہ آپ کی تحریر و تقریر کا فائدہ علماء میں سداً مقبول ہوتی تھی۔ قرآن شریف کے ترتیل سے پڑھنے کے باعث آپ کی ذات ستودہ صفات کو خاص شرف و امتیاز حاصل تھا۔ بعد انتقال پر طلال اپنے والد ماجد سیدنا صادق علی شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچیس سال مہندی زمرہ انام رہ کر آخر تاریخ ۱۹ جمادی الاخریٰ بروز سہ شنبہ بوقت ساڑھے پانچ بجے صبح ۱۳۲۱ھ بمبارضہ دونیل پست انیس ۱۹ یوم علیل رہ کر سرائے فانی سے عالم جاودانی کو رحلت فرما ہوئے۔ قطعہ تاریخ تحریر ہے۔

قطعہ

رفت چوں سیدم غلام رسول
 سوتے جنت سر ازوار اہل!
 نوزد ہم از جمادی الاخری!
 در رسیدن ز حق پیام اجل
 بے سرف پاشدہ بمسالم او!
 فضائل و ائقشہ حال و عمل

۱۳۵۳

دیہ قطعہ تاریخ بعد وفات مولانا غلام رسول صاحب جو مولانا گنج بخش صاحب مرحوم کے صاحبزادہ تھے نے لکھا تھا۔ گویا یہ قطعہ تاریخ حضرت میر غلام رسول صاحب کے استاد زادہ جن کا اسم گرامی بھی غلام رسول تھا نے تحریر کیا تھا۔ (ذمہ)

قطب عالم حضرت سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے

خُلفاء

امام علیہ حضرت شاہ صاحب تصوف اور قومی تاثیر بزرگ تھے اپنے اڑتیس سال مندرشد و ہدایت کو زینت بخشی اور مخلوق خدا کو فیضیاب فرمایا۔ اکثر اوقات آپ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں طالب مولیٰ زیر تربیت رہتے تھے۔ اور توجہ الی اللہ کی یہ حالت تھی کہ طویل عرصہ ایک خانقاہ میں ایک ہی شیخ کی خدمت میں رہتے ہوتے ایک دوسرے سے پورا تعارف نہیں ہوتا تھا۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ان حالات میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا صحیح شمار اور تعارف کیسے ہو سکتا ہے۔ جس کسی نے بھی جو کچھ لکھا ہے اپنی محدود معلومات کے مطابق درج کیا ہے۔ حضرت میاں امیر الدین رحمہ اللہ نے چترہ فیض معرفت میں انچاس خلفاء کے نام نظم کیے ہیں اور مولانا ہدایت علی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ آپ کے سو خلفاء تھے واللہ اعلم بالصواب۔

ہم نے اپنی زیر نظر کتب سے تلاش کر کے خلفاء کے نام ترتیب دیے ہیں اور بعد میں میاں امیر الدین مرحوم کی نظم درج کر دی ہے۔ تاکہ جو کچھ ہمیں میسر آیا اسے قارئین کی خدمت میں پیش کر دیں۔ امید ہے کہ آپ اس حقیر کوشش کو پسند فرمائیں گے۔

(ناشر)

اسما گرامی خلفاء عظام

خازن مخوز الہدایت، قاسم معادن الرحمة، قیوم الرحمان، قطب الانس والجان، وارث
سید البشر، شیخ الاجل، جامع بین الشریعۃ والطریقۃ سیدنا و مرشدنا
حضرت سید امام علی شاہ نقشبندی مجددی مکان شریفی قدس سرہ

۱۔ مخدوم العالم حضرت سیدنا صادق علی شاہ نور اللہ مدتہ

(سجادہ نشین اول اور فرزند اکبر)

۲۔ شجرہ ولایت، معالی منقبت صاحبزادہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ

فرزند پیر بزرگوار حضرت امام علی شاہ قدس سرہ

۳۔ جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا محمد اعظم ٹونکی برد اللہ مفتحہ

۴۔ صفوت پناہ سیاوت و نقابت دستگاہ سید بہادر علی شاہ رفع اللہ درجۃ فی الحجۃ۔ آپ کو بعد اجازت

حضور نے موضع بدولتی ضلع سیالکوٹ میں تعلقین کے لیے رخصت فرمایا (۱۲۳۰ھ خزانہ معرفت)

۵۔ الصدیق الصالح حضرت میاں خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ

۶۔ حقائق و معارف آگاہ، مقبول خداوند صمد میاں عطا محمد طاب اللہ مشواہ و ہمراہی والا

۷۔ جامع جذب و سلوک حقائق آگاہ میاں مظہر جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

۸۔ فضیلت دستگاہ، حقائق معارف آگاہ میر احمد علی حسینی مشہدی قدس سرہ و صرم کوٹی

۹۔ مظہر صفات ربانی، مورد اخلاق سبحانی، صدر سند ارشاد و ہدایت مولانا محمد مسعود قدس سرہ دہلوی

۱۰۔ حقائق آگاہ میاں شیر محمد خال کابلی ثم کالوی رحمۃ اللہ الباری

۱۱۔ حقائق آگاہ خدمت حافظ بڈھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

۱۲۔ ان کا اصل نام میاں بہتاب تھا، مظہر جمال حضرت سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا۔ مولانا محمد اعظم ٹونکی

مرحوم کی وفات کے بعد حضرت نے انہیں ٹونک روانہ فرمایا۔ بڑے مودب بزرگ تھے۔

۱۲. معدن انوار الہی، مخزن اسرار نامتناہی میاں احمد جان قدس سرہ دہلوی
۱۳. جامع حسنات معدن علوم و برکات فضیلت پناہ مولانا محمد شریف بخشانی قدس سرہ النورانی
۱۴. مجمع فضائل کاشف حقائق علوم مولانا نور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ
۱۵. سیادت ایاب حقائق مآب سید مہتاب شاہ قدس سرہ تبنو والہ
۱۶. صفوت پناہ حضرت رسول بابا کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
۱۷. سیادت پناہ حضرت سید نظام شاہ کشمیری رحمۃ اللہ الباری
۱۸. حضرت الحافظ شرف دین خوشابی قدس سرہ النورانی
۱۹. مجمع علم و عرفان منبع ذوق و وجدان میاں محمد زمان رحمۃ الرحمان
۲۰. زائر الحرمین حقائق آگاہ حاجی عبداللہ فتح گڑھی رحمۃ اللہ علیہ
۲۱. صفوت پناہ میاں عبداللہ صاحب مرارٹوی رحمۃ اللہ علیہ
۲۲. حقائق و معارف آگاہ میاں شاہ محمد قدس سرہ العزیز جوگودالیہ
۲۳. امیر السالکین حضرت میاں امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ
- مندرجہ بالا حضرت کے اجازت نامے "مکتوبات قطب ربانی" از حضرت سیدنا امام علی شاہ مکان شریفی قدس سرہ میں چھپ چکے ہیں۔
۲۴. موارد مواہب الہی، مصدر معارف نامتناہی، حقائق آگاہ میاں احمد خاں رحمۃ اللہ ساہووالہ ضلع فیروز پور (مکتوبات قطب ربانی ص ۶۲)
۲۵. مولانا مولوی فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ { خزینہ معرفت ص ۱۲۳ }
۲۶. سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
۲۷. حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ (آیات قیومیہ)

۱۰ سے یہ دونوں صاحب حضرت امام علی شاہ صاحب مرید تھے اور آپ کا استفادہ کیا اور تکمیل سید صادق علی شاہ صاحب کی اور انہیں سے اجازت حاصل ہوئی۔

نام ہائے خلفاء

جناب قطب الاقطاب حضرت قدس اللہ تعالیٰ

خلف رشید جناب دے حضرت والا شان
 عالم شاہ ہے مولوی اول ہویا جان
 میاں خدا بخش تیسرا ہے مقبول خدا
 فرق نہ کوئی قرب وچہ انہاندے مابین
 چھوواں وچہ شمار دے کامل مرد پہچان
 عبداللہ نون اٹھ گن کامل نیکو کار
 عادل خاں ہے دسواں ، اللہ دا مقبول
 سید محمد بار ہواں اندر یا عستان
 وچ بدخشاں اوسدا فیض جاری ہے عام
 خلیفہ ہے اوہ چودھواں حاصل قرب اللہ
 بھیجا پاک رسول نے حاصل کر عرفان
 نام مبارک اوسدا میر صاحب مشہور
 کامل قرب خدا دا اوسنوں بے مثال
 کامل وچہ عرفان دے قوم تیں افغان
 نور محمد انیسواں عالم کامل جان
 خلیفہ ہے اوہ بیسواں اس وچہ شک نہ کج
 خلیفہ تیسری بچہ توں در دہلی خوشنود
 ایہ خلیفہ جان توں چوی وچہ شمار
 عالم فاضل چھیاں نام محمد جان
 ستائی وچہ حساب دے اس وچہ شک نہ کج

صاحب صادق علی شاہ ایہ سجادہ جان
 خلیفہ نور جناب دے سارے کراں بیان
 سید بہادر شاہ صاحب دوئم از خلفاء
 عطا محمد چارہ بچہ پنجواں گل حسین
 فتح محمد مولوی حافظ قاری جان
 شیر محمد خان نون ستواں کراں شمار
 قطب الدین نون نو گن راہنی رب رسول
 حاجی محمد یار ہواں عالم علم پہچان
 محمد شریف تیرھواں عالم علم تمام
 حام خاں کندوز تھیں آیا سی بادشاہ
 شریف زادہ اک آیا خاص مدینیوں جان
 اوہ خلیفہ پندرہاں ظاہر باطن نور
 سولہ وچہ شمار دے میاں مظہر جمال
 احمد خاں ستار ہواں اوہ خلیفہ جان
 شاہ محمد متقی ایہ اٹھارہ جان
 حافظ پاک کلام واحد حافظ بڑہ بچہ
 کامل ہر دو علم وچہ مولانا مسعود
 حبیب اللہ ہے رب دا بندہ نیکو کار
 بدر الدین مولوی خلیفہ پنجمی جان
 سید پیر خطاب شاہ ایہ خلیفہ بچہ

میرے دادا پیر دے خلف رشید پہچان
 ظاہر باطن علم وچہ کاتب بے مثال
 نور محمد تیسواں حافظ حفظ قرآن
 کہوڑیوالہ قطب الدین بتی روشن تاب
 حاصل قرب خدا عارف بالشد جان
 چوتی وچہ حساب دے عالم صاحب عرفان
 خدمت گار جناب وابندہ خاص امین
 عبدالرحیم نام ہے ظاہر باطن نور
 خلیفہ سنتی جان توں کامل وچہ عرفان
 خلیفہ ایہہ اٹھتیاں عالم فاضل جان
 خلیفہ ایہہ اتالیان وچہ حساب ضرور
 چالی وچہ حساب دے آئے ہیں پہچان
 وچہ سیالکوٹ دے رہندہ سیکوکار
 بتالی وچہ شمار دے کامل مرو پہچان
 ہے مقبول جناب والشدوی سرکار
 ذکر شغل اوہ رب واکر و ابے شمار
 بندہ ہے اوہ رب و عارف وچہ عرفان
 شہزادینتالیان فرخ سیر پہچان

نوتے چالی ہو گئے معہ مکین حقیر

محمد بخش پنجاہ گن سارے وچہ تحریر

سید قریب الدین صاحب ایہہ اٹھائی جان
 سید احمد علی شاہ کامل جان کمال
 اونتی وچہ شمار دے ایہہ خلیفہ جان
 اکتی حافظ شرف الدین آیا وچہ حساب
 تیتی گجر نوالہ قطب الدین ترکھان
 میر محمد عیسیٰ خاص بخار یوں جان
 حمید اللہ پتیسواں صادق صدق یقین
 خلیفہ چمتی جان توں تدا ماں وچہ حضور
 پدایت اللہ لاہور یا حافظ حفظ قرآن
 نور احمد لاہور یا کامل مرو پہچان
 عمر بخش جناب دا خدمت گار حضور
 سید شاہ سردار علی ایہہ خلیفہ جان
 عمر بخش اکتالیان عابد بے شمار
 عبدالحکیم کابلی کابل اندر جان
 تر تالی قاسم خان نوں کر توں وچہ شمار
 چوتالی قاسم خان ہے پیشہ حکمت یار
 شیر محمد مولوی اوہ پنجالی جان
 قطب الدین تندوریا چمتے چالی جان



شجرہ فارسی

باشمارچند برائے حفظ نمودن برادران دینی خود از تصنیف محظرف اللہ مرحوم
 اے خدا بہر حبیب خویش حضرت مصطفیٰ (۱) مقتدائے اولیاء و افتخار انبیا
 از پے مدیق سلمان قاسم و جعفر ولی (۲) وزیرائے بایزید ابو الحسن ہم بو علی
 وزیرائے یوسف عبد خالق عارف با خدا (۳) بہر محمود علی و خواجہ بابا میسر ما
 بہر خواجہ نقشبند ہم علاء الدین پیر (۴) خواجہ یعقوب ہم احرار و زاہد بے نظیر
 بہر درویش محمد باقی بالشد الصمد (۵) شیخ احمد مشوا معصوم و زعبد الاحد
 و زعبید حضرت خواجہ عینی پارسا (۶) از پے شیخ محمد و زلفی با خدا
 حضرت خواجہ محمد حاجی احمد شاہ حسین (۷) و زمام ماعلیٰ مشکل کشا را نور عین،

وزیرائے پیر پاشت پناہ اہل دیں (۸) حضرت صادق علی مقبول رب العالمین
 از طفیل بارک اللہ نور ذات کبریٰ (۹) وزیرائے مظہر قوم فخر المقتدا

(۱۰) کن غریق بحر عرفان حقیقت اے خدا
 غیر تو دیگر نہ بینم بگذرم از ماسوا

نوٹ: شجرہ و ما کسی بزرگ نے بد میں اضافہ کئے ہیں۔ باقی شجرہ حضرت قیوم عالم
 قدس سرہ کی زندگی میں نظم کیا گیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْاٰرِثِیْنَ اَوْلِیَاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝

شجرہ شریف

(پنجابی)

نقشبندیہ مجددیہ مکان شریفیہ

کراں کس طرح تیری تعریف مولا تیسریاں نعمتاں بے شمار اللہ
 واحد ذات رحیم کریم تیسری ہیں توں عاصیاں و انجستہاں اللہ
 نبی پاک ختم المرسلین سرور، دو جگ و اچھڑا محنت اللہ
 جس دانام رؤف الرحیم آقا، جہدے نال ڈاڈا تیسرا پیار اللہ
 ابو بکر صدیق و اصدق دے دے، نقش بنداں و ابو سرور اللہ
 اوہدے عشق رسول و واسطہ ای، ہووے جگ وچ ساڈا وقار اللہ
 سلمان فارسی پیر کبیر میرا، صدقے اوس دے کم سنوار اللہ
 خواجہ قاسم دے واسطے بخش مینوں ذات پاک تیسری بخشہاں اللہ
 جعفر صادق امام ہے پیر میرا جیہڑا صادقان دا ہے سرور اللہ
 اہل بیت دار کھ لحاظ سائیاں، بھانویں لکھ میں ہاں بد کار اللہ
 کشتی ساڈی امیداں تے سدھراں دی ڈبی شوہ دریا وچ کار اللہ
 بایزید بسطامی و واسطہ ای، کر فضل تے لا دے پار اللہ
 مشکل حل کر شیخ بوعلی پچھے، ہو یا سخت میں حال نزار اللہ
 ابوالحسن خرقان دے پیر بدلے میرے گھروں آوے بہار اللہ
 پیر یوسف ہمدانی و واسطہ ای اک وار کر شکر گزار اللہ

خواجہ عبدالخالق غجدوان والے، تیرے عشق و چہ مست سرشار اللہ
 پیر عارف محمد دے فقر بدلے، ٹھیک ہون سارے کار و بار اللہ
 حضرت خواجہ محمود الخیر صدقے، میرے دل نوں دین قرار اللہ
 عزیزان علی دے واسطے خیر پادیں، جھولی کیتی میں ترے دربار اللہ
 خواجہ بابا سماسی و نام لے کے، دل وی آس واکراں اظہار اللہ
 صدقے میر کمال دے کج پر دے، توں ستار اللہ توں غفار اللہ
 اوہدے سنگ پچھے رکھ لنگ میرا، کریں تنگ نہ وچ سنار اللہ
 نقش بند خواجہ بہاؤ الدین صاحب، میں ہاں اونہاں واخذ متگذار اللہ
 وڈا پیر چہیڑا نقش بندیاں وا، جس دا جگ وچہ باغ پر وڈا اللہ
 پیر چرخ یعقوب دا واسطہ ای، میں ہاں بہت ذلیل و خوار اللہ
 تیری بارگاہ وچ وسیلہ ای، خواجہ عبید اللہ حسرار اللہ
 سید زاہد محمد دے زہد بدلے، کراں عرض میں وچ سرکار اللہ
 خواجہ درویش محمد و نام لے کے، آیا منگتا تیرے دربار اللہ
 صدقے خواجہ امکانگی دے من عرضاں میرے عیب نہ مول تار اللہ
 باقی باللہ دے قدماں دی خاک ہاں میں ترے فضل و اسدا طلب گار اللہ
 ذات پاک تیری کار ساز میری، بگڑی ہوئی تقدیر سنوار اللہ
 جہیز پیر سمر بند شریف والا، سارے جگ وچ جہد و قار اللہ
 الف ثانی محب دے شیخ احمد، خاطر اونہاں دی کرب سیڑا پار اللہ
 صدقہ اونہاں دے کر خوش حال مینوں، ہو یا سخت میں حال نزار اللہ
 خواجہ محمد معصوم دا واسطہ ای میرے ویریاں نوں کریں خوار اللہ
 سارے جگ وچوں میں تاں ہاں عاجز نالے ہاں بڑا گناہ گار اللہ
 عبد الاحد مقبول درگاہ تیرا، ہواں رکتے نہ میں شرمسار اللہ
 رکھیں شاہ حنیف دے وچ حلقے، کر منظور مینوں نہ در کار اللہ

حضرت خواجہ محمد دے لگ قدمیں پاواں واسطے میں اوگنہار اللہ
 محمد منظر فقیر دے نام بدلے، ہتھ پکڑ میرا ہاں لاجپار اللہ
 عبادیں کتیاں کیڈ خطایاں میں، بندہ پھیر تیرا بجلتہار اللہ
 شاہ زمان نون نال لیا یاں میں، تیسری وچ سچی سرکار اللہ
 خالی ہتھ دو لوں کالا منہ ساٹیاں پلے کوڈیاں منٹیں میرے چار اللہ
 حاجی احمد جناب دا واسطہ ای، جہدا فیض بے أنت شمار اللہ
 گھمن گھیری دے وچ ہے جان میری، کر فضل لگا دے پار اللہ
 خواجہ حاجی حسین دا واسطہ ای، بے تے لا مینوں اکوار اللہ
 اینہاں سارے بزرگاں توں جاں صدقے، میں قربان جاواں لکھ وار اللہ
 امام علی شاہ پیر دے نام اتوں لکھ وار میں ہوواں نثار اللہ
 صادق علی شاہ ولی پیار ڈالے جہدے نال لے تیرا پیار اللہ
 کر کے کرم ہن رکھ لے بھرم میرا، مینوں کریں نہ جگ وچ خواجہ اللہ
 میرا بارک اللہ صدقے بخش مینوں گنہ گار ہاں میں گنہ گار اللہ
 ہادی منظر قیوم دا پکڑا پلہ، وڈیا آن میں تیسرے دربار اللہ
 اپنے فضل سیٹھیں کج عیب میرے توں رحیم کریم ستار اللہ
 صدقے اینہاں بزرگاں دے رحم کر دے میں تاں ہاں بہتا گنہ گار اللہ
 دکھ درو معیبتاں دور کر دے، نظر رحم وی کر اک وار اللہ
 صدقہ عنوث اعظم خواجہ قطب عالم کریں ایہہ منظور پکار اللہ
 امام ابوحنیفہ دا واسطہ ای، امام اعظم جو وچ سنسار اللہ
 اوس فلی دے بدے نگاہ کر دے جہدا فیض بے أنت شمار اللہ
 کل انبیاء تے مرسلین بدلے اتے ہوو جو بہن نیکو کار اللہ
 برکت اونہاں وی فضل کر موناں تے کیتی عرض میں تیرے دربار اللہ
 میرے ماں تے باپ نوں بخش مولا کیتا میرے نال جنہاں پیار اللہ

تیسرے باہجہ کوئی ہو درگاہ ناہیں جتھے جا کے کراں اظہار اللہ
 تیسری رحمت ہر چیزتے ہے بھاری توں غفار اللہ توں غفار اللہ
 کر عاصی دی عرض منظور مولا، خستہ جگر ہاں سینہ فگار اللہ
 تیری پوج درگاہ دے کرے عرضاں نقشبندیاں واحد متگار اللہ
 قدرت اللہ مسکین غلام تیسرا، نال فضل کریں بیٹرا بار اللہ

اپیل

انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب

قطب عالم سید امام علی شاہ قدس سرہ،
 ان کے سجادہ نشینان حضرات اور مکان شریف کے دیگر
 مشائخ کا مفصل تذکرہ مرتب کرنا شروع کر دیا جائیگا۔

لہذا

اس خاندان کے متوسلین اور عقیدتمند حضرات جنکو خاندان
 موصوف کے بزرگوں سے متعلق تحریری یا زبانی کوئی
 مستند واقعہ معلوم ہو وہ لکھ کر درج ذیل پتہ پر بھیجیں۔

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

ارکانِ دین

توضیح العقائد (رکن دین : نمبر ۱) - ۴ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتاب لہت سلوٰۃ (رکن دین : نمبر ۲) - ۵/۷ روپے ، مجلد - ۱۰/۱۰ روپے

ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی نفل نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوالہ

کتاب الزکوٰۃ (رکن دین : نمبر ۳) - ۶ روپے

زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتاب القیام (رکن دین : نمبر ۴) - ۱۲/۱۲ روپے

رمضان المبارک اور پورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفل، روزوں کے فضائل و مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

کتاب الحج (رکن دین : نمبر ۵) - ۱۵/۱۵ روپے

حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور عمل کی شرعی حیثیت اور اسرارِ محبت بھرے انداز میں تحریر فرماتے ہیں۔

تمام حصے سوال و جواب کے طرز پر آسان زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

ٹائٹل چار رنگا۔ طباعت عمدہ، کاغذ سفید

اسلامی کتب خانہ ○ اقبال روڈ سیالکوٹ

وصال احمدی

ایک تاریخی دستاویز

یہ کتاب تین رسائل کا مجموعہ ہے۔ پہلا رسالہ وصال احمدی ایک عارفِ کامل اور اپنے وقت کے عظیم مصنف حضرت علامہ شیخ بدرالدین سرہندی رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے۔ اس میں امامِ تہجد حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کے آخری ایام کے اکثر حالات و واقعات آپ کے صاحبزادگان کے بیان کردہ ہیں اور باقی مصنف کے اپنے چشم دید ہیں۔ دایں جانب اصل فارسی ہے اور بائیں طرف اس کا اردو ترجمہ۔ دوسرا رسالہ شجرہ عالیہ نقشبندیہ ہے اس میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مترجم کے پیر و مرشد تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگوں کے مختصر حالات، ولادت اور وصال کی تاریخیں اور جاتے مزارات درج ہیں۔ یہ بڑی اہم تاریخی دستاویز ہے۔ تیسرا رسالہ "نسب نامہ مجددیہ" ہے۔ یہ ایک منظوم نسب نامہ ہے جو اشرف المخلوقین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ناظم علیہ الرحمۃ نے اپنے شیخ مولانا محمد ولی البنی رحمۃ اللہ علیہ تک نظم کیا ہے گویا یہ موتیوں کا ایک ہار ہے۔ آج ہی منگوا کر مطالعہ فرمائیے!


اسلامی کتب خانہ۔ اقبال روڈ۔ سیالکوٹ

طباعت : آفسیٹ ٹائپل : رنگین

قیمت : صرف ۲ روپے


وَمِنْ عَمَلِكُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمْ حَسْرَةٌ

أحمد سدر شجرہ انسان بر این طریقہ نشیند مجردی خاندان جناب



بفرمائیں عبدالرشید محمد ظفر اللہ درویش صاحب مصطفیٰ

مظہر اسناد کتب باستان علیٰ علیہ



بسم الله الرحمن الرحيم

بعد حمد و ثنای پروردگاری که آفریننده ارض و سماوات است و نعمت سرور کائنات که حسب
 لولا که است کمترین عباد و الله محمد طهر الله کذب و طالبان حق و شایقان برضای مولی محو مظلوم
 عرض رساست که وقتیکه این نایاب زمین وارد قصبه سیاه ضلع کوردستان سپوره کشته می لایمور از انحضرت
 پنجاب بسیده ملازمت محکمید و بهت بود شام و صبح صفت حمیده و او جناب پسندیده جناب
 شاه صاحب برگزیده درگاه خدا جوهر خنجره اکابر آل عبا قدوه سالکان راه هدایت ریس خان
 مصطفی سیادت مآب گردون جناب عالی میراتب و الامتاق کامل شریعت عامل طریقت یگانه
 بارگاه صمدیت ابته ابدال الوهیت محرم حضرت احدیت محرم کعبه بیوت قبله حاجات کعبه اروا
 مصدر ولایت منبع قناعت عامل حدیث پناه استغیث عقیب صبا معراج کاشانه معرفت
 سرچ و نایب فخرالسن و ارواح برگزیده حساب و شبح رکن عظیم دین شامخ ادیان باطله رانان سخن
 بران غای بیوت و تجرید سلطان کشور معرفت و توحید مستمندان ملاذبی پنهان را
 معاذ و الا نظر گرامی بصیر سگندر در فریدون فراز همه دور و با همه در حضور نواز س شستون
 صبا براز و نیاز سرآمد سر فراز و ممتاز خرد اندوز ادب آموز آینه نواز یاس گذار از افتخار
 ملک و اناس خدای خدای شناس ستوده حواس حقیقت اساس خطا لوست عذر نویشت

مقام عالی
 حضرت
 شایسته
 شایسته
 شایسته

ابی کوسرینش ناب جوهر آفرینش خاص الحاصل بارگاه اخلاص فیض سعادت لم زنی
 مناص امین خلوت خاص جلین بناختہ اخلاص مصدر عنایات و فیوض کثافت
 مشکلات و غموض شہسوار چالش گاہ روابط حائط کلام با ربط از جمیع معنی محفوظ بود
 مخزن محظوظ نظر اطلاق و امتناع مجمع شکر و اقتناع شیدای بلبل بوستان با نواع رہنمای
 اہل فصاحت و بلاغ پسندیدہ و حمیدہ اوصاف مصدر الباب الطاف قطب علی الاطلاق
 مرجع آفتاب سواران آفاق قبلہ ارباب تحقیق کعبہ اصحاب تدقیق واقف الحقایق کاشف
 الدقایق شیاع کنندہ امری مقتدای کاملان سابق مدوح صالو لاک عابرج
 فلک الافلاک ماسن اہل دانش و فرہنگ بیخ کن صاحبان کسم و شانگ شیعیان ذات
 الیمین و ذات الشمال مقبول بارگاہ ذوالجلال عالم عامل عارف اہل منتخبان فصل نام
 سلالہ اکابر کرام کعبہ عمل علم قبلہ ورع و حلم پیشوای اولیاء خافضین سر و صواب تہن
 قبلہ قبلہ پستان کعبہ دین و ایمان سرخسل فضلای زمان سرگروه ذات الصد رحمان
 صاحب یقین بیگان خلوت نشین بارگاہ انشان ستم شہان شایقان صبح دو دو مان
 صادقان سلطان دنیا و دین سیمرغ قافی یقین والی کومین مولای داین حاجت و
 ستمندان سر و فرقتنا خاندان نردوان طحای و ماوای دوران مطلع و مخدوم جهان
 امید گاہ امیداران ہمین پناہ گاہ کاران آداب فضایل و دو جهان مخدوم اکابر زماز
 مقتدای تائبان ہادی تائبان سینہ اش از تجلیات الہی مملو دلش انوار لم زنی مشکو
 محب الہ امید پناہ فاتح ابواب اقالیم مشکلات روئینہ مہبط انوار معارج سحانیہ مخزن اطراف
 مدسہ معدن معارف ہنسیہ منظر انوار الی معدن اسرار نامتناہی مشرق انوار باری
 مہبط اسرار کرد کاری واقف دقایق منحنی و علی و اسطرحمت بر صلیح و ولی مطرح انوار لاموتی
 مدد کمالات ملکوتی خلاصہ حنا و مصطفوی سلالہ اولاد مرقضوی حباب فیض قباب

لغز رسان
 بقیع
 از ان
 شکر بکن
 در ستم
 غافضین
 و غیر
 انوار
 آداب فضایل
 ہمین

بسی حق تعالی
بیت

سید امام علی شاه صاحب دام امیر کاکه شکره شتاق قدس موس و خواستگار حسین ساری
 مستمانه فیض کاشایه گردیده از سر پاره نموده روان شام چون صبح برای برکت اثر سردر تر جمیع شریف
 مسلمانان قطب الاقطاب کریم و صفت شکره را صحن بهشت برین رسیدم هر شجر و هر برگ گیاه شکر کلوه
 معارف قدسیه دیدم سبحان بر با حسن فغان گلستان گوی غبارش گوهر جان شگویی درین دیرینه
 درستان نیرنگ به غبارش امن است از گردش رنگ به چه فرودین چه دیماه و چه مرداد به هر
 موسم فضایش خست آباد به از هر سو صدای انند الله بلند و از هر طرف ذکر الاله گردون ای بارکنت
 یکی در مرآت شسته و دیگری در بر روی انبار بسته کسی است دعا در از کرده و یکی شجر معرفت
 در زمین سینه خود پرورده یکی تبصیر چه و دیگری شغل فنا فی الله فرشته یکی بو عطر و سپند
 دیگری با نصیحت پیوند غرض با برسی که از خا و مان و مردمان خاص تنقیض شدیم بدریای معرفت
 غریق یافتیم حتی حاضر در دولت گشته و از فرست سالی و بختیاری طالع خویش در برین نگین
 و بانوار قدوم سمنیت ازوم خاص انخاص قضیای شده در حوت بیعت نمودم فرمودند که شرط
 اول بیعت بر مکر و مات دنیاوی صبر کردن و ترک محرمات شرعی نمودن و آنچه خلاف حکم خدا
 و رسول است از ان یکسو گردیدن است زیرا که س اسرار حقیقت نشود حل سوال به فی تیر بدین
 حنمت و مال به تا خون بکمی دیده و دل پنجه سال به هرگز نرسند راهت از قال بحال به هیچ
 فائده از خالی بیعت نیست التماس نمودم سیاه قلب و زبر و زرقی می پذیرد و رنگ معانی
 است ساعت آینه سینه را بتاریکی می گیرد چه عجب از برکت و سبگیری خدام صفای قلب و صدر
 حاصل گردد و دزد عمل نیک که آن هم از نبرانی پیش نیست آفتاب شود و آخر کار بعد از ان منت
 و حاجت دست این نالایق بیت مبارک خود گرفته اولاً تعلیم توبه از معاصی و مکر و مات نمودند
 بعد از کار کار خاندان خود بلیغین فرمودند چندی که در ان ملک ماندیم عین عنایت بحالم
 مسدول ماند و تخم اشتاق و عطوفات و رزق حاتم شجره یعنی نماند بعد از اتفاقات

زمانه رو بهندوستان آوردیم و ما دم حالاً بازار اراکه قدس ان مصدر انوار ای دذوق
 حسین سالی آن استانه مظهر فیض نامتنهایی غالب آمدن خود استم که تهدیت بدروالاصفا
 رسم گردید برای برادران دینی خود برم لهذا شجره خاندان نقشبندی پیران خود مطبوع کنایم
 که ره آوردی بهتر ازین نظر آن والهان نام مرشدان نخواهد بود و تحفه نیکوترین لایق
 ان عاشقان همای پیران خویش تو هست میمانود امید که در ازای حصول شجره منظوم دعا

بحق عاصی نمایند و وبال و نکال عذاب اخوت از دل جانم ربایند
 شجره منظومه تصنیف مولی صاحب واقف معقول و منقول مبدع

علم معانی حسره و قلیم جویشیا آفتاب هدایت خوشیاد فادت

مسئدین بزم سخنوری شک افرا می خانی و انوری جناب حکیم مولوی

احمد علی صاحب ساکن بزم کرم خاص جناب شاه صاحب پیر مشد بر حق

لا زالت شمس کما شمس با غم با غم

بسم الله الرحمن الرحیم

<p>نیز صلوة جناب سید آخر زمان شدنی سعوت باد و علم اندر مونسان دانش احکام شرع و صدق اقراران زین درانت یافت خاصه اولیا عارفان از صحابه مصطفی و طرفهات این بان</p>	<p>بعد حمد شنبه صبح کون مکان با در روشن بر ضمیر صادقان حق کز علم ظاهر حجت حق بر عموم ارا بل دین علم باطن سیر در اسما و وصفات حق بهره این علم در عیان مت آمد</p>
---	---

خاص آن نسبت از صدیق فاکر است
 رایت اندوز شد بویکر از بزم رسول
 از حضور فیض بارش قاسم انوار دین
 کیسای حجابی که صحبت کسیر است
 نور اندر سر و چشم بازید از دیدار
 مست صیای حقیقت بوعلی از جام است
 تربیت پذیرفته از وی خواجہ ابوالحسن
 باغیو آید ز گنیش خواجہ عارف بوکرده
 آرسیده دل بچشم راستی از صحبتش
 نقش وحدت حاصل و مہوت خواجہ
 یافته حرمت از ارشاد او خواجہ عبید
 خواجہ درویش و لہذا ز گنجینہ اش
 وز خار روح غشیش خواجہ باقی با خدا
 یعنی آن شمع ہدای نور در سہر شد
 خواجہ معلوم روشن چشم گشت از مرد
 نظر تحقیق او خواجہ محمد شریف

لہ قاسم انوار

خواجہ فیض
صاف

خواجہ عبدالعزیز
معدنی

خواجہ عارف
بوکرده

خواجہ عابد
ابوالحسن

خواجہ محمد اسحاق
لہ

خواجہ درویش محمد

نامہا اہل آن نسبت بیارم در بیان
 یافت بوی روح او حضرت سلمان
 بردگوی سبقت تحقیق اسرار نہمان
 کوست صراف حقیقت تعدل حال صبا
 بوا حسن خرقان خرقہ رشذ زو کردہ عیان
 یوسف ہمدان از ان ہمدلس سر از نہمان
 صاحب فضل و کرامت مقتدای اجماع
 خواجہ محمود مشرہ یافت از انحران
 حضرت بابا ز حواس میرا و ادوات
 بوہ یعقوب چرخ بر طلا از چرخ ان
 ذر و اش خواجہ زامد حق آمد ہمزمان
 کہ مریدش خواجہ گلنگ بکلیامی زمان
 کہ ز سیرش طوطی نہ شد شکر زبان
 خواجہ احمد مجدد لہ تانی لہ تان
 خواجہ عبداللہ از اب و عم نور خوان
 بر مقصود زویش محمد از وان

خواجہ یوسف ہمدانی

خواجہ محمود مشرہ

خواجہ گلنگ بکلیامی

خواجہ محمد اسحاق

خواجہ سلمان

خواجہ یوسف ہمدانی

خواجہ محمود مشرہ

خواجہ گلنگ بکلیامی

پیر و صادق طریقت شد محمد مطهری
 سیر و ریافت اورا حاجی احمد شفیق
 و ذکا شرافت بهره سرو باغ انام
 عارف و کامل محقق ریح محبوب حق
 طایر اوج ہوت شاہباز ذات بخت
 قطب عالم سیر حضرت امام آمد عدل
 سال ہجری یک ہزار و چوبیس گشت
 مژدہ بان طالبان اگر صدق رسوخ
 بروم از لعان صبح صحبت این شمس حق
 گری حلاج دیدی رو این شاہ سہود
 لمعہ بر سر کہ تا بد آفتاب لطف او
 اینک از بزرگانش بخت شکر کام
 برب در پای راوی آسکارا بر جنوب
 در میان ملک پنجاب انتخاب ہفت ہوم
 دیرہ ناک تہالہ تہانہ و پیل او

کہ مریدش قطب حق خواجہ محمد شاد زمان
 خلف کامل دست جا شاہ حسن مقبل
 نور چشم مصطفی و لا فخر اکت جان
 مقبل و کحل مکمل قطب شاد زمان
 عنایت یانہ وحدت لا مکانش اتان
 فخر ملت جان شرع و نور دیدہ قدسیان
 سندار شاد حق رازین مینت آن
 ناصیہ پند برین سید ہر نشان
 محو میگردد در انوار سطوت نشان
 جز اما العبدس نو حی فدیگر زبان
 ہر چو سوزہ موسوی آرد انا اللہ بزبان
 نور مقامش شرح ارم بشنود ایدو
 مسکن آن قطب بذر رقیف اسمان
 حضرت جہر شریف آن موضع طعن نشان
 بر سر بام و تقضین لونیار در آسمان

از پشاور سوی دہلی گریوز زورہ کسی
 تاکہ شد چہت مبارک مولد این بوجہ حق
 ہمدین بود ہت بخود کہ ہطور از جوس
 یارب این بقتہ مبارک چون ہم با عروضا

در میان نافت زہ زان جانبی باد بوی جان
 شہر حق از جان دل شد والد و شہدای آن
 آرزویش کاشکی یکیا ہمین آن مکان
 باد فیض و مکارم بک گاہ عارقان

شجرہ ثانی نا شہادت کرا خط نمودن برادران دینی خود
 از تصنیف محمد طرف اللہ عن اللہ عن محمد

ای خدا بہر جہت پیش حضرت مصطفی
 از پی صدیق سلمان قاسم جعفر ولی
 وزیر برای یوسف عبید خالق عارف با خدا
 بہر خواجہ نقشبند و ہم علاء الدین پیر
 بہر درویش محمد ماتی بابتدای احمد
 وزیر سعید و حضرت خواجہ صغنی پیر
 حضرت خواجہ محمد حاجی احمد شاہ خیز
 کن غریق بحر عرفان حقیقت ای خدا

مقتدار اولیاء و فخر انبیا
 وزیر برای بایزید یو حسن ہم بو علی
 بہر محمود و علی و خواجہ بابا میر ما
 خواجہ یعقوب ہم احرار و زاید بی نظیر
 شیخ احمد پیشوا معصوم و زعبد اللہ خدا
 از پی شیخ محسن و زوکی با خدا
 وزیر امام ماعلی شکر انور عین
 غیر تو دیگر نہ بینم بگذرم از ما سوا

المنہ کہ شجرہ پیران کبار جناب ایام علی شاہ صبا و ام اطلالہ ہم کاتہم

کاتب شجرہ ہند احمد ممتاز نقشبندی

ساکن شہر ہرہ



مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا بے مثال تذکرہ

مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا بے مثال تذکرہ



○ اس کتاب نے آپ کو بہت سے مشائخ خواجہ بدر الدین سرسہدی علیہ الرحمۃ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے۔ آپ نے حضرت امام ربانی کی خدمت میں سترہ سال رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اپنے زمانہ کے ممتاز علماء اور مصنفین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمۃ نے خلفاء اربعہ حضرت صدیق، فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے لے کر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد و اجداد اور آپ کے خلفاء تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام اولیائے کرام کے مفصل حالات نہایت تحقیق سے قلمبند فرمائے ہیں۔

○ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کے حالات پر آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ کتاب بڑی جامع اور مستند ہونے کی وجہ سے سب سے بلند درجہ رکھتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ آسان اردو میں کرایا گیا ہے تاکہ ہر اردو خواں اس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکے۔

○ اولیائے نقشبندیہ مجددیہ کے حالات، کرامات اور ارشادات سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے۔

جلد ڈائی دار قیمت - ۲۱ روپے

مکتبہ نعمانیہ۔ اقبال روڈ سیالکوٹ

مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا بے مثال تذکرہ

مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا بے مثال تذکرہ



○ اس کتاب نے مولانا محمد رفیع صاحب خواجه بدر الدین سرسہندی علیہ الرحمۃ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت امام ربانی کی خدمت میں سترہ سال رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اپنے زمانہ کے ممتاز علماء اور مصنفین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمۃ نے خلفاء اربعہ حضرت صدیق، فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے لے کر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد و اجداد اور آپ کے خلفاء تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام اولیائے کرام کے مفصل حالات نہایت تحقیق سے قلمبند فرمائے ہیں۔

○ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کے حالات پر آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ کتاب بڑی جامع اور مستند ہونے کی وجہ سے سب سے بلند درجہ رکھتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ آسان اردو میں کرایا گیا ہے تاکہ ہر اردو خواں اس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکے۔

○ اولیائے نقشبندیہ مجددیہ کے حالات، کرامات اور ارشادات سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے۔

قیمت - ۲۱ روپے

جلد ڈائی دار

مکتبہ نعمانیہ۔ اقبال روڈ سیالکوٹ